

اولادِ حقیر

مصنفہ حضرت شاہ عبدالغفور کوالیاری  
شعبہ فقہ م. ن. سیدی

میں سید شاہ کبیر علی صاحب دہلوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# اورادِ غوثیہ

مصنفہ

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری

مترجم

غ۔ م۔ فریدی

ناشر

مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم اے جناح روڈ، کراچی

کتاب \_\_\_\_\_ ادراد غوثیہ  
 مصنف \_\_\_\_\_ شاہ محمد غوث گوالیاری  
 مترجم \_\_\_\_\_ غ . م . فریدی  
 کاتب \_\_\_\_\_ محمد نعیم الحق صدیقی خانیوال  
 ناشر \_\_\_\_\_ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی  
 مطبع \_\_\_\_\_ مشہور آفٹ پریس کراچی  
 اشاعت \_\_\_\_\_ اول  
 طباعت \_\_\_\_\_ ۱۳۰۵ھ / ۱۹۸۸ء  
 تعداد \_\_\_\_\_ ایک ہزار

ناشر

مدینہ پبلشنگ کمپنی، ایم۔ اے جناح روڈ، کراچی

# فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
				مقدمہ	
				ہدایات و تلقینات و وصیات	
۳۴	صلوٰۃ و دعائے ربیع الاول	۱۵		درجہ اول — در دو اوراد	۹
"	صلوٰۃ و دعائے ربیع الثانی	۱۶		درجہ دوم — رضو و نوافل	۱۵
"	صلوٰۃ و دعائے جمادی الاولیٰ	۱۷		صلوٰۃ زوالی	۱۸
۳۵	صلوٰۃ و دعائے جمادی الثانی	۱۸		صلوٰۃ خضر	"
"	صلوٰۃ و دعائے رجب المرجب	۱۹		صلوٰۃ الادابین	"
۳۷	صلوٰۃ و دعائے لیلۃ القاب	۲۰		صلوٰۃ العاشقین	۱۹
۳۸	صلوٰۃ و دعائے شعبان المعظم	۲۱		صلوٰۃ المعکوس	"
"	صلوٰۃ و دعائے رمضان المبارک	۲۲		صلوٰۃ تنویر قبر	۲۱
۳۹	صلوٰۃ و دعائے تراویح	۲۳		صلوٰۃ تہجد	۲۲
۴۰	صلوٰۃ و دعائے شوال المکرم	۲۴		صلوٰۃ شفا دار المریض	"
"	صلوٰۃ و دعائے ذیقعدۃ الحرام	۲۵		صلوٰۃ الکفارہ	۲۳
"	صلوٰۃ و دعائے ذوالحجہ	۲۶		صلوٰۃ کشف الارواح	۲۵
۴۲	صلوٰۃ الکسوف و الخسوف	۲۷		صلوٰۃ کشف قبور	۲۷
	درجہ سوم — روزہ چلم			صلوٰۃ الجنائزہ	۲۸
	درجہ چہارم — سدا ربیعین			صلوٰۃ و دعائے محرم الحرام	۳۱
	درجہ چہارم — کیفیاً و خطراً تلبیہ			صلوٰۃ و دعائے صفر المنظر	۳۲
۴۸	دل مدثر	۱			
۴۸	دل عبرت	۲			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۲۶	شجرہ طئے طریقت و خلافت	۲۸	دل صنوبری	
۱۳۸	فتنہ خلا پیران شکار خاندان عشقہ	"	دل نیو فر	۲
	آتش خار ایہ	۲۹	نفس امارہ	۵
	خلافت پیران چشت (سلسلہ اول)	"	نفس توامہ	۶
	فتنہ خلا پیران چشت (سلسلہ دوم)	۵۰	نفس ملہمہ	۶
	فتنہ خلا پیران فردوس (سلسلہ اول)	"	نفس مطمئنہ	۱
	فتنہ خلا پیران فردوس (سلسلہ دوم)	۵۰	خطرہ شیطانی	۵
	خلافت پیران سہروردیہ	۵۱	خطرہ نفسانی	۱۰
	فتنہ خلا پیران زنگیر پوش	"	خطرہ ملکی	۱۱
	خلافت پیران قادریہ	۵۲	خطرہ رحمانی	۱۱
	فتنہ خلا پیران طغوری المعروف مزاری	۵۵	درجہ پنجم — ذکر جہری و خفی	
	خلافت پیران خلوتی	۶۱	درجہ ششم — مراقبہ	
	فتنہ خلا پیران سید علی موحد ربانی	۶۵	درجہ ہفتم — تصورات	
	اجازت و دوران ریاضات	۶۹	درجہ ہفتم — تنزلات و نظریات الہی	
۱۴۲	مکاشفات	۷۹	درجہ ہفتم —	
			تصحیح خلافت و عقیدت	۱
			آداب مشیت و شناخت مرشد	۱
		۱۲۰	مسائل طریقت و بیعت	۲
			تصحیح سلاسل ظاہری و باطنی	۲
			بیان معراج	۵
			مصافحات	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## اِیْتِدَایِیَہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری اپنے عہد کے جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت عارف تھے۔ بقول جہاںگیر بادشاہ، حضرت شاہ وجیبہ الدین علوی گجراتی کی آپ کی عقیدت و ارادت آپ کی رفت و بزرگی کی شاہد ہے۔ رزک جہاںگیری، مطبوعہ لاہور، ۱۹۶۰ء ص ۲۵۰ اور بقول ایک ہم عصر مذکورہ نگار مولانا محمد غوثی مانڈوی، حضرت شاہ وجیبہ الدین کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ وہ ساتھ علوم و فنون پر عبور رکھتے تھے اور بقول عبدالباقی نہاد زری، حضرت شاہ وجیبہ الدین، مولانا جلال الدین دقانی کے تلمیذ مولانا عماد طارمی کے اجتمہ تلامذہ میں تھے اور جامعیت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بلاشبہ ایسے بزرگ و برتر شخصیت کی حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری سے عقیدت اور مریدانہ نسبت ہی آپ کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری نے کئی بادشاہوں کے اودار پائے مثلاً بابر بادشاہ ہمایوں بادشاہ، شیر شاہ سوری اور اکبر بادشاہ۔ ۱۵۸۶ء میں آپ کی ولادت ہوئی اور ۱۶۰۰ء میں آپ نے وصال فرمایا۔ گوالیار میں آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اور ادغوثیہ میں آپ نے اپنے احوال مختصر ایوں بیان فرمایا ہے۔ اس فقیر کی پیدائش ۷ رجب بروز جمعہ نماز جمعہ کے وقت ۱۵۸۶ء میں ہوئی۔ جب یہ درویش ۷ سات سال کا تھا (۹۱۴ھ) اس راہ میں آیا اور جب نو سال کا ہوا (۹۱۶ھ) تو معرفت حاصل ہو گئی اور پندرہ سال کا

ہو گیا (۹۲۲ھ) تو دوسروں کی رہنمائی کرتا تھا اور بائیس سال کی عمر میں

(۹۲۹ھ) معراج ہو گئی اور پچیس سال کا ہو کر (۹۳۲ھ) طالبوں کو اپنی

مثال بنانے لگا اور جب تینتیس سال کا ہوا (۹۴۰ھ) تو مرجع خاص و عام

ہو گیا اور مقتدار امام بننے کی صورت پیدا ہوئی۔ جب چالیس سال کا ہوا

(۱۴۰ھ) تو بادشاہ سے مخالفت کی بنا پر سفر اختیار کیا اور ولایت گجرات

میں آ گیا اور ادغوثیہ، ص ۶۰)

پیش نظر کتاب اور ادغوثیہ ولایت گجرات (بھارت) میں ہی تصنیف فرمائی

چنانچہ آپ لکھتے ہیں:-

یہ اور ادقلعہ جانا نہیں نہایت اختصار کے ساتھ لکھے جو جامع جمیع فوائد

ہیں اور سفر و حضر میں یکساں کام آنے والے ہیں۔ یہ کتاب ایسی مختصر و

جامع ہے کہ اس کے علاوہ دوسری کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس

کتاب کو لکھتے وقت اس فقیہ کی عمر ۳۳ سال کی تھی۔ (اور ادغوثیہ ص ۶۰)

اس حساب سے اور ادغوثیہ ۹۲۶ھ کی تصنیف ہوئی چاہیے۔ چنانچہ اس کتاب میں

ایک جگہ وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب جمادی الاول ۹۲۶ھ میں تصنیف کی گئی۔

اور ادغوثیہ اصل فارسی میں ہے، ہمارے سامنے اس کا واحد فارسی مبلوعہ نسخہ

بے جو مطبع صغیرہ الہی، رائے پور میں ۱۳۱۳ھ / ۱۹۹۵ء میں طبع ہوا۔ بقول ناشر سید

شاہ روشن علی قادری، اور ادغوثیہ سنہ مذکور میں پہلی بار شائع ہوئی اگر یہ صحیح ہے تو

یہ تصنیف کے ۳۶۴ برس بعد منظر عام پر آئی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے علم میں نہیں

اس طرح یہ اردو ترجمہ فارسی نسخے کی اشاعت کے ۹۵ سال بعد شائع ہو رہا ہے۔

اس اردو ترجمے کی تقریب یہ سوتی کہ خانوادہ شاہ محمد غوث گویاری کے چشم و

چراغ حضرت سید خطیر الدین شاہ شطاری نے جو اتم کے ورثہ کرم فرمایا ہیں اپنی یہ

دلی خواہش ظاہر کی کہ اورادِ غوثیہ کا اردو ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔ موصوف نے اس کا فارسی مطبوعہ نسخہ عنایت فرمایا اور ترجمہ و تدوین کا کام راقم کے سپرد کیا۔ راقم نے بیس سال قبل ۱۹۶۲ء میں ان کی فرمائش پر حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کے حالات پر ایک تحقیقی مقالہ قلم بند کیا تھا جو ماہانہ معارفِ راہِ اعظم گڑھ کے پانچ شماروں میں شائع ہوا تھا اس کے بعد موصوف نے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس مرتبہ بھی موصوف نے راقم ہی کا انتخاب فرمایا لیکن راقم اپنی علمی اور سرکاری مصروفیات کی وجہ سے ترجمہ کا کام نہ کر سکا۔ یہ کام ایک فاضل عالم کرم فرما جناب غ۔م۔ فریدی نے انجام دیا اور رواں دہستہ ترجمہ کیا فجذا هو اللہ احسن الجزاء البتہ تدوین کا کام راقم نے انجام دیا۔ یہ کام بھی مصروفیت کی وجہ سے حسبِ دل خواہ نہ ہو سکا۔ بہر حال جو کچھ ہے، حاضر ہے۔

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری اپنی مشہور تصنیف جواہرِ خمسہ کی وجہ سے عوام و خواص میں متعارف ہیں۔ جواہرِ خمسہ کے متعدد اردو ادیشن شائع ہوئے ہیں۔ مگر الحاقی مواد نے اس کی اصیلت کو مجروح کر دیا ہے پھر بھی اس کی مقبولیت میں کمی نہیں امید ہے کہ اورادِ غوثیہ بھی اسی طرح مقبول و محبوب ہوگی۔ مولائے کریم حضرت سید ظہیر الدین شاہ شطاری کو اجرِ عظیم عطا فرمائے کہ ان کی تحریکیں تعادن سے رسالہ کار و ترجمہ ہوا اور ناشر محترم کو بھی اس اجر سے محروم نہ رکھے جنہوں نے رسالہ طبع کر کے قارئین تک پہنچایا۔ آمین بجاہ سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ و صحابہ اجمعین۔

احقر محمد مسعود عفی عنہ  
پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج  
ٹھٹھہ (سندھ)

۳ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ  
۱۶ جنوری ۱۹۸۳ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بے شمار حمد و تشکر اس خالق یکتا کے لیے ہے جو ارواح انسانی کو عدم سے وجود میں لایا اور انہیں گرا بنا رکھتے جسماں عطا کی۔ اس کی قدرت کاملہ سے لطیف احوال نے کشف و دبیر قبائے جسماں کو اس طرح پہنکا کہ لچک تک نہ آئی زبان عارف بیان اسرار قدرت سے قاصر ہے مَن عَرَفَ اللّٰهَ كَلَّ لِسَانُهُ اور جب عارف نقیب القوم ہو کر نذا کرتا ہے تو بہت کچھ کہتا ہے مَن عَرَفَ اللّٰهَ طَالَ لِسَانُهُ عرفانے ربوبیت سے الوہیت کو پہچانا اور الوہیت سے عبودیت کو آراستہ کیا پس بظہور اللّٰه نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مَنُوْرٌ ہونے اور وَاٰیٰتُنَا ہُ بُرُوْحُ الْقُدُسِ کے دریاے روحانی میں غوطہ زنی کر کے مجسم مستغرق ہو گئے۔ احوال مثالی صورت مثالی میں جلوہ گر ہوئیں اور علم غیب حسن شہادت اختیار کر کے پابند امر و نہی ہوا اور مختار و مکلف بنا اس ایک معبود حقیقی کے جلوے تمام مخلوق میں عیاں ہیں پھر بھی اس کی ذات مقدس فہم و ادراک سے ماورا ہے تاہم بقدر بساط اس کی معرفت کے بغیر کوئی چارہ نہیں بے حکمت ریاضت صفا حاصل نہیں ہوتی اور بے صفا عرفان نیتہ نہیں آتا عرفان صرف ذکر حق حق نہیں محویت کا نام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادَتٍ جس ذات نے تمام کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اس کا کچھ تپہ نشان تو معلوم کرنا چاہیے یہ مشکل ہے کہ جسم روح بن جائے مگر جب ریاضت و مجاہدہ میں سالک کو اپنی خبر ہی نہ رہے تو اس کا جسم اور اس کا رُو اں رُو اں مجسم ذکر حق ہو جاتا ہے اور اس کی ہر رگ و پسے سے ذکر کی آواز آنے لگتی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ جب نذا کر محویت کی اس منزل پر پہنچ جائے تو وصول الی اللہ میں کامیابی آسانی سے ہوتی ہے اور ہمہ وقت سولے مشاہدہ و معاینہ تجلیات

کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ جاہلِ عالم میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اگر یا د حق  
ہیں ذرا بھی کاہلی ہو جائے تو بمصداق بَلْ هُمْ أَهْوَنُ سَبِيلًا. لغو وباللہ  
اپنے حق میں جہل کا اثبات کرے۔

جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی امانت سے مژین و مجللاً بنا دیا  
ہے اور وہ امانت صفات ذاتی و افعالی ہیں۔ سالک پر پہلے یہ لازم ہے کہ امانتیں  
امانت والوں کے سپرد کرے۔ اس کے بغیر کچھ کرے نہ سوچے اور کچھ دیکھے نہ سنے۔  
وعلیٰ ہذا القیاس معاذ اللہ اگر دوسروں کی امانتیں اپنے تصرف میں لائے تو یہ خیانت  
ہوگی اور وہ محفوظ نہ رہے گی۔ ایسا شخص گنہگار و معتوب ہو جائے گا۔ سالک اس  
سے ہوشیار و محتاط رہے گا تو اللہ تعالیٰ خرابی و گمراہی سے بچائے گا۔ یہ چند  
باتیں تصنیف و جود کے سلسلہ میں ذکر کی گئیں۔ البتہ شاہ بازان طرقت ان باتوں  
پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کثافت ماسوی اللہ کو اپنے عمل سے دور کر کے آئینہ  
باطل کی جلا کرتے ہیں تاکہ آفتاب عشق کی طلعت بے غبار و حجاب نظر آنے  
لگے۔ اس کتاب کا نام اورادِ غوثیہ رکھا گیا۔ جب سالک کو یہ کتاب کفایت  
نہ کرے تو جو اہر خمسہ جو اس نقیر کی تصنیف اک دریلے محیط کی مانند ہے۔  
اور اس کے مضامین نہایت رفیع ہیں۔ اس میں سالک جتنی غوطہ زنی کرے  
گا اور اس کتاب کو اپنا پیشوا سمجھ کر عمل میں لائے گا اتنا ہی مقصد میں کامیاب  
ہوگا اس کتاب کے شروع میں چند ضروری ہدایات تحریر کی جا رہی ہیں۔  
سالک کا فرض ہے کہ ان پر سختی سے عمل کرے۔ کیونکہ ان پر بغیر عمل کئے درجہ  
مشیخت کی راہ نہیں ملتی اور بے اصلاح نیت عملیات و وظائف میں اثر پیدا  
نہیں ہوتا بقولہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْنِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ**  
**إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنَبَاتِكُمْ**

## سالک پہلے ضروری ہدایات

۱۔ ہمیشہ اپنے سر کو وحدت حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے اور دماغ کو اس طرح آزاد نہ چھوڑے کہ غیر کا تصور اس کے دل میں راہ پا جائے۔ اور نفع و ضرر، خیر و شر ہر یہ و انعام، ایزد و ایلام میں سے کسی چیز کو مخلوق کی جانب سے نہ سمجھے۔ کوئی نعمت اسے ملے تو اور نہ ملے تو ہر حال میں شکر حق ادا کرے۔ کہ قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ بِرِيقِينِ رکھے۔

۲۔ اوقات خلوت میں آخر وقت تک لوگوں کے لیے ملاقات کا دروازہ نہ کھولے اور زیات کے لیے آنے جانے والوں کا راستہ بند رکھے۔ اس سلسلہ میں اس بات کا خیال رکھے کہ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام کے دوران ہمیشہ لوگوں سے گریز فرماتے اور کسی سے ملاقات نہ فرماتے تھے۔ اس پر بھی اگر طالب لوگوں کے ملنے جُمنے سے راضی ہو تو سمجھ لے کہ یہ بات اس کی ریاضت کے شایان شان نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں اس کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ اور اللہ کی خدمت چھوڑ کر مخلوق کی خدمت میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ جو اپنے اختیار سے حق کی پرستش نہیں کرتا وہ اخطار ہی طور پر مخلوق کی پرستش کرنے لگتا ہے جب سالک خلوت و گوشہ نشینی کا قصد کرے تو کچھ وقت شیخ کی خدمت میں بھی رہے۔ اور اس کے حکم مطابق اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرے۔ تاکہ اس کا رابطہ شیخ کے ساتھ صحیح طریقہ سے قائم رہے۔ کہ الشیخ فی قومہ کالنتی فی امتہ وہ گوشہ نشینی یا اس کے علاوہ جو بھی ارشاد کرے طالب اس پر عمل کرے۔

۳۔ اتنا علم حاصل کرے کہ اپنا اعتقاد مذہب اہل سنت و جماعت پر خود کو ٹھیک اور صحیح سمجھ

سکے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ اَوْ فَرِيضَةٌ نَفْسَانِي  
و شیطانی کو پہچان جائے کہ اَعِدْ عَدُوَّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ.

۴۔ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس کی تمام عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کی سنت کے موافق ہو جائیں کہ وَلَدِي مَنْ سَلَكَ طَرِيقِي

۵۔ کینوں اور جاہلوں سے محبت و دوستی نہ کرے اور ان کی بُری صحبت میں نہ رہے  
کہ الْقَصْبَةُ تُوْبِرُ بُرَى صِحْتِ كَارِكِ ضَرُورٌ حَرْمَتَا هِيَ.

۶۔ دولت مندوں سے تعلق نہ رکھے إِلَّا بِضُرُوتٍ

۷۔ جتنا اپنے وجود کو ریاضت کی بھٹی میں بگھلائے گا اور نفسِ امارہ سے جنگ

و جدل کرے گا بشارتہ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

اتنا ہی توحید حقیقی تک پہنچے گا۔ جب توحیدِ افعالی کی تصحیح ہو جائے گی جو مرتبہ

میں کم ہے تو اس کو توحیدِ افعالی سے توحیدِ صفاتی کی طرف ترقی ہوگی اور توحید

صفاتی سے توحیدِ ذاتِ عیان و وجدان کے ساتھ منکشف ہوگی۔ کیونکہ التَّوْحِيدُ

اِسْقَاطُ الْاَصْنَافَاتِ هِيَ جَوَ لُوكِ تَوْحِيدِ كُو تَحْمِيلِ ذَهَبِنِ اَوْرِ مَطَالَعَةِ كِتَابِ سِ

سمتھے ہیں زندگی و الحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور استادِ شریعت کی ہتک

کرتے ہیں اور گمراہی و جہالت میں مبتلا رہتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ

بَلَا اُسْتَاذٍ فَقَدْ مَاتَ زِنْدِيْقًا

۸۔ جب توفیقِ خداوندی رفیقِ حال ہو جائے تو دنیا سے منہ پھیرے کہ تَذَكُّ

الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ اَوْرِ بَارِگَاهِ حَقِّ تَعَالَىٰ كِي طَرَفِ مَتَوْجِهٍ هُوَ جَائِزٌ۔

۹۔ تمام گندگیوں سے پاک رہے جیسے کہ بے پائی بدن و لباس و وضو نماز نہیں

ہوتی ایسے ہی بغیر پاکیزگیِ دل و روح و درگاہِ حق میں داخل کی اجازت نہیں ملتی۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

۱۰۔ جب کوئی واقعہ عالم بیداری یا حالت خواب میں دیکھے پہلے اپنے مرشد سے عرض کرے اور اس میں کچھ کمی و بیشی نہ کرے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کا خواب کہ اس کو آپ نے اپنے والد سے بیان کیا اِنِّی رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اور اس کی تعبیر وَجَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا۔

۱۱۔ تصرف حق تعالیٰ کو عقل و فکر سے نہ سمجھے اور اس کی ذات کے متعلق قیاس سے کام نہ لے بجز تَفَكَّرُوا فِی آیَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِی ذَاتِهِ پر نظر رکھے۔  
۱۲۔ جو کچھ کہے ادب سے کہے کہ فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا وَيَا مَرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ پر عمل کرے اور غیبت بہتان اور تمام نامشروعیات، لاف و لغو اور لہو سے پرہیز کرے۔

۱۳۔ محسن احسان کرے تو اس کے مقابل کہے جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَأَنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔

۱۴۔ بزرگ کا حق معرفت اور اس کی اور اس کی بزرگی کی قدر و منزلت کو پہچانے کہ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  
۱۵۔ گناہوں کے ارتکاب سے نفس کو بچائے۔ اور دل کو سوائے محبوب کے کسی اور کی طرف التفات سے محفوظ رکھے۔ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حَدَمٌ لِلَّهِ وَحَدَمٌ عَلَى حَدَمِ اللَّهِ إِنَّ يَبْلُغُ فِيهِ عَيْنُ اللَّهِ۔

۱۶۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار و متنفر ہو جائے۔ بموجب النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَا تَوَأَّنْتَهُمْ  
۱۷۔ کار ہانے دینی و دنیاوی حق تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔

۱۸۔ ایک کو دیکھے ایک کو جانے ایک کا نام لے اور ایک کی جستجو کرے اور جو پہلے دیکھے اس کی طرف سے دیکھے اور اسی کی جانب سے سمجھے هُوَ الْاَوَّلُ هُوَ الْاٰخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ۔

۱۹۔ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو اس سے عفو و مغفرت کا امیدار رہے کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ۔

۲۰۔ رسائل تصوف کا مطالعہ نہ کرے جو بات مرشد کی فرمودہ ہو اس میں مستغرق ہو جائے جو کیفیت نظر آئے مرشد کی خدمت میں عرض کرے۔ اگر مرشد موجود نہ ہو تو مکتوبات شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا مطالعہ کرے۔ تاکہ فریب نفس و وسواس خناس کا علم حاصل ہو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ گفتگوئے خلاق میں الجھ کر حقائق سے بے نصیب اور محروم ہو گئے۔ کتابیں پڑھیں مگر عمل کچھ نہ کیا۔ جب آخر کار منزل سلوک پر پہنچے تو اپنے حال کے مقابلہ کے لیے کتب حقائق کا مطالعہ کرے۔ اور روحانی لذت حاصل کرے۔ اگر اس کی حالت سلف کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرے۔ اور علمائے شریعت کو بغیر محنت و ریاضت اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق اعتقاد کو صحیح کر کے اس مالک و مولیٰ کی طرف مائل ہو جائیں۔

۲۱۔ جو چیز ذکر و فکر اور معرفت حق سے مانع ہو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے اور اس کی طرف توجہ نہ دے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ حَرَامٌ

۲۲۔ اظہار کشف و کرامات سے پرہیز کرے۔ اور ادھر نظر نہ ڈالے کیونکہ مخلوق بندہ کرامت بن جاتی ہے اور وہ شرمندہ حق ہوتا ہے۔ اور بہت سی آفتیں رونما ہونے لگتی ہیں کہ الشُّهُوةُ اَفْتَةٌ وَالْخَمُولُ نَاحَةٌ

الحاصل ابتدائے حال ہی میں سالک تصفیہ و تزکیہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ و تصفیہ حاصل نہیں ہوتا مگر اسماء اللہ تعالیٰ کی مشغولیت سے جاننا چاہیے کہ بعض اسماء راجع بہ ذات حق ہیں جیسے اللہ قدوس و قیوم و قدیم وغیرہ اور بعض اسماء راجع بصفات ذاتی جیسے علیم و قادر وغیرہ اور بعض راجع ہوتے ہیں صفات افعالی کی طرف جیسے خالق و رازق وغیرہ اور بعض مشترک ہیں صفات ذاتی و صفات افعالی کے ساتھ جیسے سلام و جبار وغیرہ اور اسم راجع بذات و اسم راجع بصفات ذاتی کے درمیان یہ فرق ہے کہ نسبت حق تعالیٰ تصرف مطلق ہے۔ اور نسبت خلق تصرف مقید کا چشم باطن سے معائنہ کرتا ہے۔ حقیقت میں تصرف اسی کا ہے۔ سالک مبتدی و رمد و ادا و نوافل و صوم میں مشغول رہتا ہے۔ اور معمولات کو کبھی ترک نہیں کرتا اور نہ تارک الورد و طعون کا مصداق بن جائے۔ جب معرفت قلبی حاصل ہوتی ہے اور دل تک رسائی ہو جاتی ہے تو قومی حال و مستقیم مزاج ہو جاتا ہے اور دل ذلیل بن جاتا ہے سالک متوسط اس باطنی مرتبہ پر فائز ہوتا ہے عظیم تصورات و واردات قلبی کو مختلف نثر میں پہچان لیتا ہے۔ اس روحانی و قلبی تصور کی بناوٹ جو لائق درگاہ رب العزت ہے۔ اس نے اس سے انس اختیار کیا اور آئینہ مراقبہ کی بناوٹ کے ساتھ اسے سامنے رکھا تصور اسمائے مذکورہ کہ حقیقت الحقائق ہیں راجع بذات ہو گیا اور غیر کے وجود حادث کو ذکر رحمانی سے فنا کر دیا بمعرفت العُلَمَاءِ وَ ذُرِّيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ پھنچا اَفْدَايَتَ مَنْ اَتَّخَذَ الْهَوَاةَ شَيْطَانًا ہر جگہ سے دفع ہوا۔ اور کسی مقامات کے لیے حَسَنَاتِ الْاَبْوَابِ سَيِّئَاتِ الْمُفْتَرِبِينَ کو سامنے رکھا یہاں تک اپنے مقصد کو پہنچا خود کو پایا تو سالک منتہی ہو گیا۔ اور اپنے نورانی حال کے مطابق جلوہ گر ہوا۔ اِنِّي جَا عِلٌّ فِي الْاَوْصَابِ خَلِيفَةً اس کے کام آیا اور سالک مبتدی سے منتہی ہو گیا۔ یہاں دو نکتے

ہیں ایت ہے کہ تَعْلِيمًا لِلْخَلْقِ ہوا اور دوسرا یہ کہ سالک نے طہی مقامات کو دریا سے کی تھی۔ اور بغیر ذات جب رتبہ تکمیل کو پہنچی تو ہر حُسن میں خود کو دیکھا۔ خود جلوہ گر ہوئی تجلی ذاتی و صفاتی ضرورت پیش آئی کہ خود کو جانے اور پہچانے اور لطف حاصل کرے اور صنائع و بدایع میں نظر کرے اور دیدہ بصیرت کو ہمراہ لے کرے اور ہر قابل دید چیز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو اور تمام اشیا کو اپنے جمال و جلال کا مظاہر جانے اور کائنات کے ہر ذرہ میں ایک روزن تصور کرے۔ عالم ملکوت و جبروت تک اور ہر ایک کو شرف جمال کمال و کمال جمال و منظر انوار اسرار و اسرار انوار خورشید حقیقی سمجھے۔

سالک کے عالم سفلی سے عالم علوی تک نو درجے ہیں اور ہر درجہ کے لیے ایک عمل منسوب ہے۔ وہ دیکھ کر عمل کرتا ہے۔

- ۱۔ درجہ اول و ردا اور ادبیں۔
- ۲۔ درجہ دوم و ضوا اور نوافل۔
- ۳۔ تیسرا درجہ روزہ اور چلہ میں۔
- ۴۔ چوتھا درجہ خطرات قلبی اور اس کی ماہیت کے معلوم کرنے میں۔
- ۵۔ پانچواں درجہ ذکر چہرہ و نخی میں۔
- ۶۔ چھٹا درجہ مراقبہ کے طریق میں۔
- ۷۔ ساتواں درجہ تصورات و تصدیقات میں۔
- ۸۔ آٹھواں درجہ تنزلات اور ظہور اسمائے الہی میں۔
- ۹۔ نواں درجہ تصبیح خلافت اور عقیدت اختیار کرنے میں اور آداب مشیخت و شناخت پر و مرشد اور مسائل طریقت میں اور بیعت و تصبیح سلاسل اور ظاہری و باطنی و بیان معراج میں۔



## درجہ اول ورد و اواد میں

سالک عابد شب بیدار سنت فجر کو خلوت خانہ میں ادا کرے۔ جیسا کہ مشائخ نے فرمایا ہے۔ اور فرض مسجد میں باجماعت ادا کرے۔ پھر خلوت خانہ چلا جائے اور مصلحہ پر روقبلہ ہو کر بیٹھے۔ اور مسبوعات عشر نماز فجر و عصر کے بعد بلاناغہ پڑھے۔

سورۃ فاتحہ چاروں قُلْ مَعَ بِسْمِ اللّٰهِ اور آیت الکرسی ہر ایک سات بار اور سات مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ایک مرتبہ عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَمِثْلَهُ مَا عَلِمَ اللّٰهُ سات بار اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سات بار اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِإِسْرَائِيلَ وَإِسْحٰقَ وَإِسْحٰقَ كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَاعْفِرْ لَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اور سات بار اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِعَلْمِي عَاجِلًا وَاجْتَلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ عَفُوفٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَهِرٌ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ اس کے بعد تین بار اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ پڑھے۔ اور سات بار اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کے بعد پڑھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ صَاحِبُ

الْوَحْدَانِيَّةِ . دَائِمَةِ الْقَدِيمَةِ الْأَزَلِيَّةِ الْأَبَدِيَّةِ لَيْسَ  
 لَهُ هِنْدٌ وَلَا يَنْدٌ وَلَا شِبْهُهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ رَفَعَ الْقَلَمَ إِلَى كَوْنِهِ  
 وَمَكْنُونِهِ فِي غَيْبِهِ وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِأَمْرِهِ  
 وَوَحْيِهِ اللَّهُ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ وَيَرْجِعُ  
 السَّلَامُ مَفْعِلِنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ  
 رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ لَا مَنَافِعَ لِيَا أَعْطَيْتَ  
 وَلَا مَعْطَى لِيَا مَنَعْتَ وَلَا رَادًّا لِيَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ  
 اس کے بعد تین بار پڑھے اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس کے بعد تین بار پڑھے  
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا  
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَضَّلْ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَمَغْفِرَةً وَ  
 رَحْمَةً شُكْرًا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّوْفِيقِ وَاسْتَنْفِرُوا  
 اللَّهُ مِنْ كُلِّ تَقْصِيرٍ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ نِعْمَ النَّصِيرُ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ  
 عِبَادَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَدَدْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اس کے بعد  
 تین بار پڑھے وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْيَقِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبُ الْتَوَّابِينَ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غِيَاثُ الْمُسْتَفِئِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ لَا إِلَهَ  
 إِلَّا اللَّهُ الْقَهَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ السَّارُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَبَدًا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَصِدْقًا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَلَطَّفًا وَرِفْقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَعْبُدُ رِزْقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 إِيْمَانًا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا نَا مِنْ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا نَا مِنَ اللَّهِ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا نَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفْتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْخَلَ بِهَا قَبْرِي  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ نَسُ بِهَا وَحْدَتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْقَا بِهَا رَبِّي  
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبْقِي رَبَّنَا وَيُعْنِي وَيَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ  
 الْمَعْبُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ إِحْسَانٍ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كُلِّ لِسَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
 وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ  
 وَحْدَهُ وَلَا شَيْءُ بَعْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ  
 وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا يَاهُ مُخْلِصِينَ  
 لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِينَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ  
 وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هَلِيسَ كَكَيْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ اس کے بعد تین بار پڑھے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  
 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اس کے بعد یہ اِسْمَاءُ الْحُسْنَى ایک بار  
 پڑھے، وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَاذْعُوْهُ بِهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ  
 اِسْمًا مِائَةٌ غَيْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ اَحْصَاها وَقَدْ اُهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ  
 بِرُوحِسابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا يَخْفُظُهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ  
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِينَ الْجَبَّارَ الْمُتَكَبِّرَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ  
 الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ  
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِينَ الْجَبَّارَ الْمُتَكَبِّرَ الْخَالِقُ  
 الْبَارِي الْمُصَوِّرَ الْغَفَّارَ الْوَهَّابَ الرَّزَّاقَ الْفَتَّاحَ الْعَلِيمَ الْقَابِضَ  
 الْبَاسِطَ الْحَافِظَ الرَّافِعَ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكِيمُ الْعَدْلُ  
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  
 الْحَفِيزُ الْمُقِيتُ الْحُسَيْبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ  
 الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ  
 الْمُتَيْنُّ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْمُخِي الْمُمِيتُ  
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْحَمِيدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ  
 الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالَى  
 الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْعِمُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُورُ الرَّؤُوفُ مَا لَكَ الْمَلِكُ ذُو الْجَلَالِ  
 وَالْإِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمُعْطَى الْمَانِعُ  
 الصَّارُ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ  
 الصُّبُورُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى  
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَبِيبُ اللَّهِ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ مِنْ دَعَا وَدَاؤِ اللَّهِ الْمُتَمِّمِ  
 مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقَدْ تَجَى سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَزَلْ كَرِيحًا وَلَا يَزَالُ  
 رَجِيمًا اس کے بعد یہ درود شریف پڑھے اللہ صلی علی محمد ما  
 دامت الصلوٰۃ وبارک علی محمد ما دامت البرکات وادع  
 علی محمد ما دامت الرحمۃ اللہم صلی علی روج محمد

فِي الْأَرْضِ وَاحٍ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ  
 مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ عَلَى تَرْتِيبِ مُحَمَّدٍ فِي التُّرَابِ وَصَلِّ عَلَى  
 صَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّبُورِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اس کے بعد یہ دعا  
 بِشْمَخِ بِيْهِ اللَّهُمَّ يَا بَشْمَخَ بِشْمَخَ ذَا الْأَهَامِ وَأَشْطِثُونَ اللَّهُمَّ يَا ذَا نُوَا  
 مَلْعُو تُوْدَ تُوَا أَيُّمُونَ اللَّهُمَّ يَا خَيْشُو مَيُّمُونَ أَرْقِشُ دَارَ عَلِيُّونَ اللَّهُمَّ  
 يَا رَحِيمِنَا هَلِيلُونَ مَيْطَرُونَ اللَّهُمَّ يَا رَحِيْشُونَ أَخْلَاقُونَ اللَّهُمَّ يَا رَحْمُوتَ  
 أَرْحِيمِ أَرْحِيمُونَ اللَّهُمَّ أَيَا أَثْرَاهِيَا أَرْوِي أَصِيَاثَ أَصِيَا وَتُونَ اللَّهُمَّ  
 يَا نُورُ أَرْغِيْشَ أَرْغِي تَشْلِيْشُونَ اللَّهُمَّ أَشِيْشَ أَشْمَاءَ أَشْمَاوُونَ اللَّهُمَّ أَشِيْرُ  
 يَا مَلِيْعُونَ ثَا مَلِيْعًا مَلِيْعُونَ اللَّهُمَّ الْأُمْرَعْدَا رَعِي يَزُونَ اللَّهُمَّ يَا بَشْمَخِ  
 مَشْمَخِيْنَا مَشْلَامُونَ بَيْنَ الْكُفَّ وَالنُّونِ رِنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  
 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ اس کے بعد کشفِ قلوب کے لیے بعد نماز فجر  
 بارہ مرتبہ یہ اسمائے عظام پڑھے اور بعد نماز عصر پانچ مرتبہ اس سُبْحَانَكَ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ وَوَارِثَهُ وَوَارِثَهُ  
 يَا إِلَهَ الْأُولِيَّةِ الرَّفِيعُ جَلَالُهُ يَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِهِ  
 يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمُهُ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيُّ فِي دَائِمِيَّةِ مُلْكِهِ  
 وَبَقَائِهِ يَا قَيُّوْمُ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا يُوَدُّهُ يَا وَاحِدُ  
 الْبَاقِي أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ يَا دَائِمُ بِلَوْفَنَاءِ وَلَا زَوَالٍ بِمُلْكِهِ  
 وَبَقَائِهِ يَا صَمَدٌ مِنْ غَيْرِ شِبْهِهِ فَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ يَا بَارُّ فَلَا شَيْءٌ  
 كُفُوُهُ يَدَا نَبِيهِ وَلَا أَمْكَانَ لِيُوصِفَهُ يَا كَبِيْرُ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي  
 لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ لِيُوصِفَ عَظَمَتَهُ يَا بَارُّ يَا نَفُوسِ بِلَا مِثَالٍ

خَلَامِنْ غَيْرِهِ يَا زَاكِي الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ يَا كَافِي  
 الْمَوْسِعُ يَا خَلِقَ مِنْ عَطَا يَا فَضْلِي يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ  
 وَلَمْ يُخَالِطْهُ فَعَالَهُ يَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا  
 يَا مَنَّانُ ذَا الْوَحْسَانِ قَدَعَمَّ كُلَّ الْخَلَوَاتِقِ مِنْهُ يَا دَيَّانُ الْعِبَادِ كُلِّ يَوْمٍ  
 خَاصِعًا لِلرَّهْبَةِ وَرَعْبِهِ يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ الْيَوْمِ مَعَاذُهُ  
 يَا رَحِيمُ كُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَعِيَاثُهُ وَمَعَاذُهُ يَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ  
 الْأَوَّلِينَ كُلَّ جَلَالِهِ وَمُلْكِهِ وَعِزِّهِ يَا مُبْدِعُ الْبَدَائِعِ لَمْ يَبْعِ فِي الْإِنْسَانِيَا  
 عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ يَا عَلَامُ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ حِفْظِهِ يَا حَلِيمُ  
 ذَا الْأَنَاتِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ يَا مُعِينُ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَوَاتِقُ  
 لِدَعْوَتِهِ مِنْ خَافَتِهِ يَا حَمِيدُ الْفِعَالِ ذَا الْمِنَّةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَا عَزِيزُ  
 الْمُنِيعِ الْغَالِبِ عَلَى جَمِيعِ أَمْرِهِ فَلَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ يَا قَاهِرُ الْبَطْشِ الشَّدِيدِ  
 أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَرِيبُ الْمُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَوًّا وَرِفَاعَةً  
 يَا مُدَلِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ يَا نُورُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ  
 أَنْتَ الَّذِي فَلَاقَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ يَا عَلِيُّ الشَّامِخِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَوًّا وَرِفَاعَةً  
 يَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ  
 يَا مُبْدِي الْبَرَآيَا وَمُعِينُهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ يَا حَلِيلُ الْمُتَكَبِّرِ عَلَى  
 كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعَدُّهُ يَا مَحْمُودُ فَلَا تَبْلُغُ الْأَرْهَامُ  
 كُلَّ ثَنَائِهِ وَمُجْدِهِ يَا كَرِيمُ الْعَفْوِ وَالْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِي مَلَأَ كُلَّ شَيْءٍ  
 عَدْلُهُ يَا عَظِيمُ الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَالْعِزِّ وَالْمُجْدِ وَالْكَبْرِيَاءِ فَلَا يُدِيلُ عِزَّهُ  
 يَا قَرِيبُ الْمُجِيبِ الْمُدَائِنِيِّ وَوَنَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْبَهُ يَا عَجِيبُ الصَّنَائِعِ  
 فَلَا تَنْطِقُ الْأَوَّلِينَ بِكُلِّ الْأَيْهَةِ وَثَنَائِهِ وَبِنَمَائِهِ يَا غِيَاثِي عِنْدَ

كُلُّ كُذْبَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَمُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا رَجَائِي  
 حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي اس کے بعد یہ دُعا لے استجاب پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 يَا مُفْتِحَ الْاَبْوَابِ وَيَا صَيِّبَ الْاَسْبَابِ وَيَلْمُقَدِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَارِ وَيَا  
 دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا مُخْرِجَ الْمَحْزُونِينَ اَغْنِنِي  
 اَغْنِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّي قَضَيْتُ وَقَوَّضْتُ اَمْرِي اِلَيْكَ يَا رِزَاقُ  
 يَا فَتَّاحُ يَا بَاسِطُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ  
 اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اس کے بعد حضرت رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل و اصحاب  
 و جہدہ مشائخ کی ارواح کو سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص و درود شریف  
 پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ نہایت خلوص سے کچھ دیر آنکھ بند کر کے دل میں  
 ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ حضوری حاصل ہو اس کے بعد با وضو اولے اشراق  
 و دیگر نوافل میں مشغول ہو جس طرح و درجہ دوم میں ذکر ہو چکا ہے۔

## درجہ دوم

ہر فعل میں پہلے نیت کو مقدم جانے و وضو شروع کرے تو اس کے درمیان  
 کسی سے بالکل بات چیت نہ کرے۔ ابتدا میں تین مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھے۔  
 اور منہ دھونے کے لیے جب بھی پانی لے دو پڑھے اور پانی پر دم کرے۔  
 پھر اس پانی سے منہ دھوئے۔ اور جو عضو دھوئے۔ پہلی بار دل میں یہ تصور  
 کرے کہ میں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا۔ دوسری مرتبہ دھوئے تو دل میں  
 یہ خیال کرے کہ میں نے خطرات نفسانی و شیطانی کو دور کر دیا۔ تیسری مرتبہ  
 جب دھوئے تو دل میں یہ تصور کرے کہ میں نے خطرات ملکی کو دل سے نکال  
 دیا۔ اس ترتیب سے وضو کو مکمل کرے۔ اَلْوُضُوْءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

فرمایا گیا ہے بعدہ وضو کا لباس پہن کر صف عبادت میں مسلح حاضر ہو جائے تو تاثیر شیطانی کہ اِنَّ عَلَيكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ فرمایا ہے تیرے بازوؤں پر اثر نہ کرے اور ادب کے ساتھ امر حق تعالیٰ کو بے وسوسہ خاطر بجالائے۔ اس کے بعد جب آفتاب بقدر ایک یا دو نیزہ کے نکل آئے تو پھر وضو کی تجدید کرے کہ اَلْوُضُوْءُ عَلٰى الْوُضُوْءِ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ وَالشَّمْسُ وَالضَّمْحُ پُزْحَمٌ اس کے بعد نماز اشراق ادا کرے جس طرح اور اد میں ذکر ہو چکا ہے۔ بعض اشراق کی دو رکعت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض چار رکعت کا اور بعض دس کا اور بعض بارہ کا۔ منجملہ ان کے جو میسر ہو سکے اس پر عمل کرے۔ مشائخ نے نماز اشراق کی قرات کو مختلف طور پر مخصوص کیا ہے، لیکن حضرت سلطان الموحدین شیخ ظہور الحق والشرع والدین سے منقول ہے کہ نوافل کی ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنا نسب واولیٰ ہے دوسری رکعتوں کے مقابلہ میں چنانچہ حدیث میں سورہ مذکورہ کی فضیلت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْمِخْلَاصُ لِعَادِلٍ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ و دو رکعت سے بارہ رکعات تک اسی طرح پڑھے۔ اور دو رکعت شکر اللہ کی نیت کرے۔ اور دونوں رکعتوں میں بھی بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تین تین بار ہر رکعت میں پڑھے۔ بعد میں یہ دعا پڑھے اَعُوْذُ بِعِزَّتِ اللّٰهِ وَقُوَّتِ اللّٰهِ وَقُدْرَةِ اللّٰهِ وَعَظَمَتِ اللّٰهِ وَبُرْهَانِ اللّٰهِ وَكِبْرِيَا اللّٰهِ وَكَنَفِ اللّٰهِ وَجَوَارِ اللّٰهِ وَامَانِ اللّٰهِ وَحِزْبِ اللّٰهِ وَبَطْنِ اللّٰهِ وَرَفِيعِ اللّٰهِ وَجَلَالِ اللّٰهِ وَجَمَالِ اللّٰهِ وَحِفْظِ اللّٰهِ وَبَهَائِ اللّٰهِ وَدَرَقِيْبِ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اس کے بعد دو رکعت نماز استعاذہ ادا کرے پھر دو رکعت نماز استخارہ پڑھے اور نماز استخارہ تمام نوافل پر مقدم ہے اگرچہ یہاں اس کو مقید کر کے بیان



کیا ہے۔ جب کسی امر میں استخارہ کرنا مقصود ہو تو وضو کر کے دو رکعت  
تحتہ الوضو پڑھ کر نماز استخارہ کی دو رکعتوں کی نیت کرے۔ اور سورہ فاتحہ  
کے آیت الکرسی و قل یا ایہا الکافرون ایک ایک مرتبہ اور اذ جاء نصر اللہ  
اور قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس ہر رکعت میں تین تین مرتبہ  
پڑھے۔ اور بعد نماز استخارہ چالیس مرتبہ یہ پڑھے یا غیاثی عند کل کربة  
و مجیبی عند کل دعوة و معاذی عند کل شدّة و یا رجاہی حین تنقطع  
حیلتی اس کے ساتھ آسمان کی طرف سر بلند کر کے اور منہ اٹھا کر ہاتھ مھیلدا  
کر تین مرتبہ یہ دعائے استجاب پڑھے یا مفتح الأبواب و یا صیّب  
الأسباب و یا مقلب القلوب و الالبصار و یا دلیل المتعیرین  
و یا غیاث المستغیثین و یا مخرج المحزونین اغثنی اغثنی توکلت  
علیک یا ربی و فوضت امری الیک یا رزاق یا فتاح یا باسط و صلی  
اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین بروحمتک یا ارحم الراحمین  
اس کے بعد دو رکعت نماز استجاب ادا کرے اور نماز وہ دعا پڑھے  
جو استخارہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز شکر الہنار  
پڑھے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز شکرانہ والدین ادا کرے اور جب  
والدین کافر ہوں تو آباؤ اجداد میں جو بھی مسلمان ہوں ان کے لیے پڑھے اور  
اگر کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہ ہو تو روح حضرت آدم و حوا علیہما السلام  
کو اس نماز کا ثواب پہنچائے

**ذکر نماز چاشت** جب چوتھائی دن گذر جائے تو نماز چاشت کی باہ  
رکعتیں اس تفصیل سے پڑھے پہلی چار رکعتوں میں سے  
رکعت اول میں بعد سورہ فاتحہ سورہ الشمس اور دوسری رکعت میں سورہ

والیل تیسری میں سورہ والضحیٰ اور چوتھی میں سورہ الم نشرح پڑھے۔ باقی آٹھ رکعتیں بھی چار چار رکعت کی نیت باندھ کر ایسے ادا کرے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اور بعد نذرہ دعائیں سو ساٹھ بار پڑھے کہ اس کے اثرات دیکھے دعایہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

جب آفتاب کا زوال ختم ہو جائے تو چار رکعت نماز زوال ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں بعد سورہ

فاتحہ پچاس بار یا دس یا کم از کم تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔

جب نماز سے فارغ ہو جائے تو تین سو بار یہ پڑھے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔

نماز ظہر کے بعد اور نماز عصر سے پہلے نماز عصر کی دس رکعتیں پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اذا

جاد نصر اللہ اور سورہ اخلاص تین بار پڑھے بعد نماز اکیس مرتبہ یہ اسم پڑھے  
يَا فَتَّاحُ تَفَتَّحْ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ

بعد نماز مغرب چھ رکعتیں ادا بین کی ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تین

بار پڑھے پھر دو رکعتیں حفظ ایمان کی ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ

تین بار سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر کر ہاتھ پھیلا کر اور بلند کر کے یہ آیت

سات مرتبہ پڑھے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

لیکن نہایت خلوص سے پڑھے تاکہ سلامتی ایمان حاصل ہو۔ ذکر مسئلہ

القلب دور رکعت پڑھے اور دل میں نیت کرے نَوَيْتُ أَنْ أَصِلَّ لِلَّهِ

تَعَالَى رَكَعَتِي صَلَوَاتِ الْقَلْبِ ہر دو رکعت میں بعد فاتحہ سورہ اخلاص تین بار دل میں پڑھے اور زبان سے کام نہ لے۔ اس کی نیت اور تحریک اور قمرات و تکبیر و تسبیحات و تشہد و درود سب بجائے زبان سے پڑھنے کے دل ہی میں پڑھے جب یہ نماز ختم کرے تو سجدہ میں سر رکھ کر جو حاجت ہو اس کو خدائے تعالیٰ سے طلب کرے۔ پھر بجنور دل بیٹھ کر ستر بار دل میں استغفار کرے۔ اور پیر و مرشد کا تصور کرے۔

چار رکعت اس نیت سے کرے نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ  
**ذَكَرَ صَلَاةَ الْعَاشِقِينَ** | لِلّٰهِ تَعَالَى اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ الْعَاشِقِينَ پہلی

رکعت میں بعد فاتحہ يَا اللّٰهُ سُوْمَرْتَبِهٖ دوسری میں يَا رَحْمٰنُ سُوْمَرْتَبِهٖ تیسری میں يَا رَحِيْمُ سُوْمَرْتَبِهٖ اور چوتھی میں يَا وَدُوْدُ سُوْمَرْتَبِهٖ پھر سلام پھیر کر سُوْمَرْتَبِهٖ یہ آیت پڑھے هُوَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ذَكَرَ صَلَاةَ الْمَشَاهِدِ وَرَكَعَاتٍ اِدَا كَرِهَ اَوْ رُبْعًا فَاتِحَةَ هَرِّ رَكَعَاتٍ فِي شَهَادَةِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ كُو سُوْرَةُ اَخْلَاصِ كَيْ سَا تَمَّ شَامِلُ كَر كَيْ تَيْنِ تَيْنِ مَرْتَبِهٖ پڑھے اور سلام کے بعد اِيْكَ مِزَارِ مَرْتَبِهٖ يَهٗ آيْتِ پڑھے وَجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّا ضِرَّةً اِلَى رَبِّنَا نَاظِرَةٌ تُوْمَشَاهِدَةُ غَيْبِ پَرُوْدَةُ لَارِيْبِ سَيْ حَاصِلِ هُوْكََا . اِن تَيْنُوْ كُو بَدِ چَاشْتِ يَا بَعْدِ مَغْرَبٍ يَا بَعْدِ عِشَاءٍ يَا بَعْدِ تَهَجُّدٍ پڑھے اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھے۔

جب سالک میں ریاضت کی استعداد پیدا ہو جائے  
**ذَكَرَ صَلَاةَ الْمَعْكُوسِ** | تُو صَلُوْتُهُ مَذْكُوْرُهُ كَا عَمَلٍ شُرُوْعُ كَر سَيْ اُوْرِبَا لِكُلِّ اَلْثَا  
 ہو کر بارگاہِ حق میں عجز کا دروازہ کھولے۔ تاکہ مقبول بارگاہ ہو جائے۔ واضح

ہو کہ نماز معکوس کا عمل فرعون مدتوں کرتا رہا اس کے بعد پھر کسی نے ایک مدت تک یہ عمل نہیں کیا۔ حالانکہ سب کو اس کے سرسری لاجابت ہونے کا علم تھا چنانچہ فرعون کا قصہ مشہور ہے کہ جب اس نے عظمت محمدی کا پرچم لہراتا ہوا دیکھا تو اپنا نماز معکوس کا موقوف کیا ہوا عمل پھر شروع کر دیا تو اب اس کے علاوہ دوسرے خوش نصیب حضرات بھی اس عمل پر کار بند ہو کر سرسری لاجابت ہو گئے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت معدن المعانی میں مذکور ہے۔ سند صلوٰۃ مذکور اور اس کے پڑھنے کے طریقے کو جانتا چاہیے۔ چاشت کے وقت یا مغرب کے وقت یا تہجد کے وقت یہ نماز ادا کی جائے۔ خلوت خانہ یا باغ یا کسی ایسی جگہ جہاں گوشہ تنہائی ہو اور کسی کا دہاں گزر نہ ہو۔ حجرہ ہو تو اس میں مشرق و مغرب میں دو ستون مضبوطی کے ساتھ نصب کرے اور ان پر ایک مضبوط لکڑی لگائے۔ ستونوں کی اونچائی اتنی ہو کہ دونوں ہاتھ اس لکڑی تک پہنچ جائیں اور باغ ہو تو اس کے درخت کا جو گڈھا شرقاً غرباً پھیلا ہوا اور آنا اونچا ہو کہ دونوں ہاتھ اس تک پہنچ سکیں تو وہ بھی صحیح رہے گا۔ چار گز گورا دبیز لٹھالے کر اس کے دونوں سروں کو اچھی طرح سی کر بند کر دیا جائے اور وہاں کر کے بل دیکر اس میں دو حلقے بنائے جائیں۔ ایک حلقہ میں دائیں پاؤں کو ڈال کر اس کی پنڈلی کو لکڑی پر پہنچائے اور دائیں ہاتھ سے لکڑی کو پکڑے۔ دوسرے حلقہ میں بائیں پاؤں ڈالے اور پنڈلی لکڑی پر پہنچا کر اسے بائیں ہاتھ سے پکڑے۔ اس طرح کہ دونوں پاؤں لکڑی پر برابر آجائیں۔ تجربہ کار تو آرام سے اعضاء کو نیچے لے آئے گا۔ اور سر جھکا کر نماز شروع کرے گا لیکن اگر مبتدی ہو تو ایک مضبوط بندش اپنی کمر اور اوپر کی لکڑی میں باندھے

اور جب زمین پر پہنچے تو اسی بندش کو پکڑ کر سر نیچے کرے اور اسی کے سہارے اوپر آئے۔ مشائخ اہل ریاضت نے ایک ایسی حکمت اختیار کی ہے کہ دیر تک آسانی سے ٹکے رہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ چپڑے یا کپڑے کا تیکہ بنا کر پشت کی جانب اوپر کی لکڑی پر رکھ کر جتنی نماز چاہے ادا کرے۔ جب تھک جائے تو ذرا سہراٹھا کر تیکہ مذکورہ گروں یا پشت یا کمر کے نیچے رکھے اور آرام کرے اور اسے الگ کر کے نماز میں مشغول ہو جائے اور جتنی چاہے نماز ادا کرے۔ اس کا فائدہ محنت و ریاضت سے ہوگا۔ طریق دوگانہ معلوم کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ وقت نماز معدہ خالی ہو۔ اگر کچھ کھالیا ہو تو دو ڈھائی گھنٹے کا فصل سے پھر وضو کر کے دو رکعت تہیۃ الوضوء ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ تین بار سورۃ اخلاص پڑھے اس کے بعد دو رکعت نماز شکر اللہ بھی اس طرح ادا کرے۔ بعد میں دو رکعت صلوٰۃ المعکوس کی ادا کرے بعد سورۃ فاتحہ آیت الکرسی ایک بار اور اذاجاد و سورۃ اخلاص تین تین مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے بعد سلام ایک بار یہ دعا پڑھے **يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُزْبَةٍ وَ مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَ مَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ سَيْدَةٍ وَ رَجَائِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلِي** اور ننانوے بار **حَبِيبِي رَبِّي** کہے پھر اول چار رکعت بہ نیت معکوس ادا کرے پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ چاروں قل چار مرتبہ دوسری میں چاروں قل تین تین مرتبہ تیسری میں چاروں قل دو دو مرتبہ اور چوتھی میں چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھے۔ صلوٰۃ معکوس کی ہر رکعت میں اتنا پڑھنا تو لازمی ہے۔ اس سے زائد جتنا ادا کر سکے کرے اور تمام احکام و ارکان صلوٰۃ مذکورہ اشارہ سے ادا کرے اور بعد تکبیر اولیٰ ہاتھ سینے پر باندھ لے۔

**ذکر صلوٰۃ تنویر القبر** اور رکعت صلوٰۃ تنویر القبر ادا کرے۔ اور ہر رکعت میں

بعد فاتحہ آیہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملئکة قالوا عدواً بما  
 بالقسط لا الہ الا هو العزيز الحکیم پڑھے اور بعد سلام سو مرتبہ یا نور  
 والنور في نورک یا نور پڑھے۔

**ذکر نماز تہجد** | جب اول شب یا آخر شب میں سو کر اٹھے تو نماز تہجد سے  
 پہلے اللہ اکبر کیسے ادا سبحان اللہ بکرة قاصیلاً

دس بار پڑھے اس کے بعد دو رکعت تہجد الوضوء ادا کرے اور سلام پھیر کر ۲ مرتبہ  
 ورو پڑھے اس کے بعد دو رکعت صلوة اجیاد الیل پڑھے اور ہر رکعت میں  
 بعد فاتحہ تین بار آیہ الکرسی پڑھے اس کے بعد نماز تہجد کی بارہ رکعتیں اس  
 طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور  
 دوسری میں گیارہ مرتبہ غرض ہر رکعت میں ایک ایک کی کمی کرتا جائے تو  
 بارہویں رکعت میں سورہ اخلاص ایک بار ہی پڑھے۔ تہجد کی کم سے کم چار رکعتیں  
 ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ بارہ۔ پس ہر دو رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھے اور  
 استغفار و درود پڑھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر اس فقیر حقیر نگہز محمد خطیر الدین عطا  
 کی مناجات شتر بار پڑھے۔ الہی آنچه بد کردم ندانتم خطا کردم بہ بخش بحق لا الہ  
 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی علی محمد وعلی ال محمد و  
 باریک وسلم و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین برحمتک  
 یا ارحم الراحمین

**ذکر صلوة شفا المریض** | صحت و شفا مریض کے لیے سات روز  
 ایک روزانہ دو رکعت نماز پڑھے بعد فاتحہ

تین بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھے۔ اس کے بعد ہر صلا بیٹھے اور کہے  
 ذکرے مصلیٰ پر بیٹھ کر ایت ہزار مرتبہ یہ تسبیح پڑھے یا بدیع العجائب بالخیر

اِرْحَمْنِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ اِنَّهُ سَاثِمٌ مَّرْتَبَةً بِرُطْبَةٍ يَاجِي حَيْثُ لَوْحِي فِي ذِي مَوَازِي  
 مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَاجِي پھر تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے یا مُبْدِي السُّبُرَا يَا  
 وَمَعِيذَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ يَا مُبْدِي تَاكُ حَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَرَضِي  
 کوئی زندگی بخشے اس نماز و تسبیح کو ولی محفوظ شیخ صدر الدین ابوالفضل  
 نے بیان کیا ہے۔

شیخ الاسلام رئیس الاقوام و مقتدر اُلیاء رکن الحق و شرع  
 ذِکْرُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ وَالِدِينِ ابُو الْفَتْحِ قَرَشِي قَدْسِ سِرَّةٍ يَهْدِيهِ صَلَاةُ الْكُفَّارِ قَضَا شَدَّ نَمَازُ

کے لیے بطور کفارہ کے سلطان قطب الدین انار اللہ برہانہ کے لیے بطور پڑ  
 لائے تھے۔ اس نماز کی اسناد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔  
 جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی صحیح تعداد بھی معلوم نہ ہو کہ کتنی ہیں  
 تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے روز چار رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے  
 اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی سات بار اور انا اعطیناک پندرہ بار پڑھے  
 بحضور دل تو حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی سات سو برس کی نمازیں  
 قضا ہو گئی ہوں یہ صلوة الکفارہ ان کا کفارہ ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا  
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی عمر تو ساٹھ ستر سال سے زیادہ نہیں ہوتی  
 تو سات سو سال کا حساب تو ممکن ہی نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا کہ جو نمازیں صلوة الکفارہ پڑھنے والے کی قضا ہوئی ہوں اور جو نمازیں  
 اس کے والدین اور اولاد نے قضا کی ہوں یہ نماز کفارہ ان سب کی تمام  
 نمازوں کا کفارہ ہو جائے گی نماز کفارہ کی نیت یہ ہے لَوْ نَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ  
 اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَكْفِيْرًا لِقَضَاءِ اَلَّتِي مَا فَاتَتْ مِنِّي فِي جَمِيعِ عُمُرِي وَسَابِقِ

مَا فِيهَا صَلَوَةُ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ بَعْدَ نَمَازِ شَوْبَانَ سَيِّدِ  
 عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ وَرُطْبَةٍ هِيَ أَوْ رَأْيٌ بَارِيٍّ وَعَاطِرَةٌ هِيَ اللَّهُمَّ تِلْكَ سَابِقَ  
 الْقُوَّةِ وَيَلْسَامُ مَعَ الصَّوْتِ وَيَا مُحِيَّ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَصَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي خَرَجًا وَمَجْرَجًا مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنَّكَ  
 تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَا وَهَّابُ  
 الْعَطَايَا وَيَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا سُبُوْحُ يَا قُدُّوسُ رَبُّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوْحِ  
 رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَنَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ الْأَعْلَى  
 يَا سَتَّارَ الْغُيُوبِ وَيَا غَافِرَ الذُّنُوبِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى  
 اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ذَكَرَ جِهَتِ فَضِيلَتِ نَمَازِ جَمْعِهِ وَحُصُولِ سَعَادَتِهِ  
 اِيك روز ایک اعرابی حضرت رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں  
 آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور شہر مینہ ہم دیکھتے  
 اس لیے ہم وہاں جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچ سکتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ  
 کہ واپسی پر گاؤں والوں کو بھی بتا دیا جائے اور ہم سب اس عمل میں مشغول رہا  
 کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکل آئے۔ دو رکعت  
 نماز ادا کرو۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل  
 اعوذ برب الناس پڑھو اور سلام کے بعد آیت الکرسی سات بار پھر اٹھ کر چار  
 رکعت نماز نفل اور پڑھو اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ اذاجا نصر اللہ ایک بار  
 اور قل ہو اللہ یکھیں بار پڑھی جائے اور نماز سے فارغ ہو کر شتر بار لاخول  
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کو پڑھا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سجدہ کہ  
 جان محمد جس کے تابع فرمان ہے جو مومن مرد یا عورت یہ نماز ادا کرے جس  
 طرح میں نے حکم دیا ہے جمعہ کے دن تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن



ہوں اس نماز کا پڑھنے والا جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی بخش دیا جائے گا اور عرش کے نیچے سے منادی ندا کرے گا کہ اے بندہ خدا فکر مغفرت کو دماغ سے نکال دے کہ اللہ نے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے اور دو گناہ مذکور کے ادا کرنے والے کو تورات و انجیل و زبور و قرآن کا ثواب حاصل ہو گا اور ہمیشہ روزہ رکھنے والوں اور شب بیداروں اور کعبہ کا طواف کرنے والوں کا ثواب ملے گا اور ایسا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے بیت المقدس اور مسجد نبوی کو خود ہی تعمیر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بیشمار نیکیوں کا ثواب لکھ دے گا اور تمام پیغمبروں کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بھی۔ یہ بات اعرابی نے ہر کسی سے کہی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ اعرابی کے گرد گھومنے لگیں اور فرمایا کہ یہ ثواب ہمیں تیرے ذریعہ حاصل ہوا اور عبدالرحمن بن عوف نے اعرابی کو دو کپڑے اور ہزار درم اس خوشی میں دیے دوسرے آدمی نے ستر دینا دیئے۔ اعرابی اپنی قوم کی طرف نہایت خوش و خرم واپس گیا۔ اس کی اسناد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا نعوذ باللہ منہا اس میں شک کرنے والا کافر ہو جائے۔

**ذکر صلوة کشف الارواح** | جب کوئی ارواح انبیاء و اولیاء و کل مومنین و ملائکہ کو حاضر کرنا چاہے تو پیرا منگل اور بدھ دن رات جاگتا رہے بالکل بھی نہ سوئے اور صوم طہی رکھے۔ یعنی افطار کے بعد بھی کچھ نہ کھائے جمعات کے روز دریا کے کنارے یا پہاڑ کے دامن میں یا جنگل میں یا حوض کے کنارے یا خالی مکان میں جہاں آدمی کی آواز یا چرند پرند کا گزرنہ ہو وہاں غسل کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھے اور یہ اسم پانچ ہزار بار پڑھے **يَا كَيُّوُ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ**

لَوْصِفَ عَظَمَتِهِمْ يَا كَبِيرُ يَا بَارِي النَّفُوسِ بِلَوْ مِثَالِ خَلْقٍ مِنْ غَيْرِهِ يَا بَارِي  
يَا ذَا كِي الطَّاهِرِينَ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ يَا ذَا كِي يَا كَافِي الْمُتَوَسِّعُ لِمَا خُلِقَ مِنْ  
عَطَا يَا فَضِيلَ يَا كَافِي يَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِي وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رُحْمَتُهُ وَعِلْمًا  
يَا حَنَّانُ اور متوجہ ہو کر پڑھے بعد تہجد الوضوء چار رکعت نفل اس نیت کے ساتھ  
پڑھے نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ صَلَوةً إِظْهَارِ الْاِرْتِدَاجِ  
الْعُلُويَّةِ وَالسِّفْلِيَّةِ مَتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ چاروں رکعتوں  
میں بعد فاتحہ انا انزلناہ اور سورہ اخلاص نو نو مرتبہ پڑھے نماز سے فارغ ہو کر  
دس دفعہ درود پڑھے اور کھڑا ہو جائے۔ سات قدم آہستہ آہستہ آگے رکھے اور  
ہر قدم پر درود پڑھے اور اَغْنِي اَغْنِي تین مرتبہ کہے اور ساتویں قدم پر درود  
کے بعد سات مرتبہ اسمائے مذکور پڑھے پھر درود پڑھتا ہوا جائے نماز پر چلا جائے  
اور کچھ دیر بیٹھے پھر وہی اسماء بلند آواز سے پڑھے پھر اٹھ کر اور قبلہ رو ہو کر سات  
قدم پیچھے آئے اور ہر قدم پر وہی پڑھے جو پہلے سات قدم رکھنے میں پڑھا  
تھا اور کامل توجہ کے ساتھ سر نیچے کیے آہستہ آہستہ اللہ اکبر کہتا ہوا جائے نماز  
پر پہنچ کر بیٹھ جائے اور وہی اسماء بلند آواز سے پڑھے پھر اٹھے اور سات قدم  
دائیں طرف یعنی شمال کی جانب دائیں پاؤں سے رکھے اور منہ قبلہ ہی کی طرف  
رہے اور وہی پڑھے اور اسی طریقہ سے لوٹ آئے اور سبحان اللہ کہتا ہوا جائے  
نماز پر آ کر بیٹھے اور اسماء مذکور کو بلند آواز سے پڑھے پھر اٹھے اور بائیں جانب  
بائیں پاؤں سے سات قدم جائے لیکن اب بھی قبلہ رو رہے اور وہی پڑھے  
جب واپس جائے تو اَحْضُرُوا اَحْضُرُوا کہتا ہوا جائے نماز پر پہنچے اور  
تین سو اکٹھ بار اسمائے مذکور پڑھے۔ پڑھنے کے درمیان ار و اج و ملائکہ  
حاضر ہو جائیں گے ساک انہیں دیکھ کر بیہوش ہو جائے گا اور کچھ دیر بعد یہ ہیں

آئے گا اور مستوں کے طریقہ سے خبریں دے گا۔ اس نماز کا بار ہا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور اس پر یقین ہے اور اس کی سند سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور سے منقول ہے۔

**ذکر صلوة کشف قبور** | جب سالک کشف قبور کا عمل کرنا چاہے تو جمعرات کو روزہ رکھے اور افطار میں تھوڑا سا کھانا کھائے اور

تمام رات بیدار رہے اور صبح کو بھی روزہ دار رہے۔ بعد نماز جمعہ قبرستان جائے اور راستہ میں کسی سے بات نہ کرے اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ دے۔ جب قبرستان آجائے تو مزارات کی طرف متوجہ ہو کر کہے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَوَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمُ الْعَاقِبَةَ كَمَا رَوَى عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَوَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمُ الْعَاقِبَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ اس کے بعد فاتحہ واخلاص تین بار پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچائے اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر چالیس مرتبہ کہے اور دو قبروں کے درمیان مصلا بچھا کر بیٹھ جائے بحساب خذ حرفاً قل ما تہ ایک ہزار سات سو پینسٹھ بار یہ اسم پڑھے يَا قَرِيبُ الْمُجِيبُ الْمُدَّانِي دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْبَةً يَا قَرِيبُ اس کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے اور اسکی نیت اس طرح کرے۔ نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ تَبْعَ رَكَعَاتِ صَلَوةٍ كَشَفِ الْقُبُورِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَةِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ہر رکعت میں بعد فاتحہ ادا جاوے اور اخلاص نو مرتبہ پڑھے۔ جب نماز پڑھ چکے تو مصلا ہی پر بیٹھا رہے اور اپنی طرف متوجہ ہو کر آنکھ بند کر کے تین سو ساٹھ مرتبہ

اسم مذکور پڑھے اور پڑھنے کے بعد سراوپر اٹھا کر بلند آواز سے مکرر کہے اور  
جلد کہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ پر وہ غیب سے  
تمام ارواح اس صحرا میں نظر آئیں گی اور استعداد کے مطابق ہر ایک کے  
حال سے واقف ہو جائے گا۔ لیکن اس راز کو عوام پر نظر نہ کرے فقیر نے  
یہ عمل نہیں لکھا تھا لیکن چونکہ یہ اوراد فقیر کے خاص ہیں اس لیے قلم اس پر چلایا  
گیا اسرارِ مسطور مخفی رہنے چاہیں۔

جب جنازہ کو دیکھے تو کہے اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ  
**ذَكَرَ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ هَذَا  
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَسُؤْلُهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ  
حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا  
فِي الْمَوْتِ وَاجْعَلْ لَنَا بَعْدَهُ خَيْرًا نَيْتِ اس طرح کرے نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِيَ  
أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  
وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ وَالِاسْتِغْفَارُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اقْتَدَيْتُ  
بِهَذَا الْوَسْمِ مَتَّوِّجَةً إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ تَكْبِيرًا وَابْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ  
ووسری تکبیر کہے پھر اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ  
وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ رَبَّنَا إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ تیسری تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَ  
شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَ اللَّهُمَّ مِنْ أَحْسَنَةِ  
مِنَّا فَاحْيِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ أُمَّتِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ جَنَازَةَ

نابالغ بچوں کی دعا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا  
 اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا سَاقِيًا وَّمُشَفِّعًا وَاورنا بالغ بچوں کی جنازہ ہو تو اس  
 کی دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا  
 لَنَا سَاقِيَةً وَّمُشَفِّعَةً. منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ  
 پر یہ دعا پڑھتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَجَاوِزْ عَنَّهُ وَاَعْفُ عَنْهُ  
 وَاكْرِمْ نَزْلَهُ وَاَسْبِغْ مَدْخَلَهُ وَاَلْسِنَ وَاَحْسِنْهُ وَاَرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَاَلْقِنْ  
 حُجَّتَهُ وَاَبْرِدْ مَضْبَعَهُ وَاَنوِّرْ مَهْجَعَهُ وَاَلْحِقْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
 وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَبْعُدْهُ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ  
 یہ درویش دل ریش تیرہ سال کو ہستان قلعہ چنار میں مشغول عبادت رہا  
 چنانچہ وہاں ایک جنازہ کا واقعہ اظہر من الشمس میرے دیکھنے میں آیا اس کا  
 کشف راز اس طرح ہوا کہ حضرت شرف جہاں احمد کبھی مبنیری تمام مشائخ بہار و  
 تپکال کے ہمارے دریاے گنگا کے کنارے آگئے اور ایک شخص کو میرے بلانے  
 کے لیے بھیجا۔ فقیر چلا گیا جیسے ہی ان مشائخ کی نگاہیں مجھ پر پڑیں سب میرے  
 پاس آئے اور ملنے کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس ناگور  
 آ جاؤ۔ فقیر نے عرض کیا وہاں میری کیا حاجت ہے پھر ان حضرات نے فرمایا  
 کہ تمہیں بلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ شیخ احمد نانولی شیخ حسین ناگوری  
 قطب عالم کے خلیفہ تھے وہ ناگور میں وفات پا گئے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم شیخ احمد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں اور تمہیں بلا  
 رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شرف جہاں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تمام مشائخ  
 نے ہو کا نعرہ مارا اور ہم سب چشم زدن میں دہلی پہنچ گئے وہاں کے تمام  
 مشائخ ولایت شہر دہلی پہلے ہی جمع تھے اور مشائخ بہار و بنگال کی آمد

کے منتظر تھے۔ جب یہ مشائخ وہلی پہنچ گئے تو آپس میں مصافحہ ہوا اور پھر سب مشائخ نے ہو کا نعرہ مارا تو ایک دم ناگور پہنچ گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ حوض کے کنارے اونچی جگہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی صف میں جنازہ کے نزدیک حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں اور آپ نے فقیر کو بھی صف اول میں بٹھا دیا۔ تمام مشائخ مشرق و مغرب اور شہداء و صلحا و ملاں اس وقت موجود تھے۔ فقیر نے اس عالم میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے نظر ڈالی تو ان حضرات مشائخ کا اس عظیم مجمع دیکھا جس کا اندازہ نہ لگ سکا۔

بکھ دیر کے بعد حضرت رسالتاب نے خواجہ فرید الدین عطار کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ اپنے فرزند سے کہو کہ اس کا جنازہ نماز پڑھائے۔ خواجہ صاحب نے میرے پاس آکر امامت کے لیے فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم امامت مجھے دیا ہے اور میں خوف زدہ ہوں اس پر سرکار نے فرمایا کیا کوئی اور نہیں ہے۔ خواجہ عطار نے ہر طرف نظر ڈالی اور عرض کیا یا رسول اللہ اہل جسد کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ امامت نماز جنازہ کے لیے اہل جسد شرط ہے اپنے فرزند سے کہو کہ امامت کرے میں نے عرض کیا کہ نیت نماز جنازہ مجھے نہیں آتی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ میں نیت و دعا شرط نہیں ہے توجہ اور تکبیر شرط ہے فقیر نے حضرت رسالتاب سے عرض کیا کہ کس طرح۔ حضرت نے فرمایا اَلصَّلَاةُ لِلّٰهِ وَالتَّوَابُ لِلْمَيِّتِ اللّٰهُ اَكْبَرُ ہر تکبیر پر بند آنکھیں کھول کر میت کی طرف دیکھو چاروں تکبیریں اسی طرح پوری کرو چنانچہ حکم کے مطابق میں نے نماز پڑھا دی اس کا جنازہ اٹھا کر قبر میں پہنچا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشائخ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا السلام علیکم اور شیخ شرف الدین نے فقیر کا ہاتھ پکڑ کر مقام

فقیر پر پہنچا دیا اب مجھے ہوش آیا تو ایک عجیب کیفیت تھی اُس وقت اور دن تاریخ کو میں نے لکھ لیا دو تین ماہ کے بعد تحقیق ہو گئی کہ یہ واقعہ صحیح تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نئے چاند کو کوئی **ذکر ماہِ مُحَرَّمٍ** دیکھے تو کہے **مَرْحَبًا بِالسَّنَةِ الْجَدِيدَةِ وَالشَّهْرِ الْجَدِيدِ وَ**

**الْيَوْمِ الْجَدِيدِ وَالسَّاعَةِ الْجَدِيدَةِ مَرْحَبًا بِالْكَاتِبِ الشَّهَادَةِ وَالشَّهِيدِ**  
**الْكَتَابِ فِي صَحِيفَتِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ**  
**لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ**

فی القُبُورِ ایضاً محرم کی پہلی شب میں چھ رکعتیں تین سلام کے ساتھ ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر تین بار **سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ**

**الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ** پڑھے ایضاً شبِ عاشورہ سور کعتیں ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ اخلاص تین بار پڑھے۔ بعد نمازِ شتر بار **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** پڑھے۔ ایضاً جو دس محرم کا روزہ رکھے تو گویا اس نے

سال بھر روزے رکھے گما قال علیہ السلام مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ اس روز آفتاب بلند ہو جائے تو غسل کر کے سفید کپڑے پہنے اور ہاتھ میں پانی لے کر اس پر درود پڑھ کر دم کرے اور سر پر ملے یہ تسبیح نبیانو سے باپڑھے **حَسْبِيَ رَبِّي** ایضاً شتر بار عاشوراء کے دن میں **حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ** پڑھے گا تو حق تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جو شخص عاشورے کے دن سات

باریہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہو تب بھی اس سال میں نہ مرے گا و عایہ ہے سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءُ الْمَنِيْرَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغُ الرِّضَا وَ زِينَةُ الْعَرْشِ لِوَالجَاءِ وَ لَوْ مَنجَاءً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِهِ الثَّمَانِيْنَ كُلِّهَا سَأَلْتُ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَلْحَوْلُ وَ الْقُوَّةُ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ هُوَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

جو اس دعا کو ماہ صفر میں روزانہ مع بسم اللہ کے پڑھے گا حق **ذکر ماہ صفر** تعالیٰ اس سال میں آئندہ صفر تک تمام آفتوں سے بچائے گا۔ و عایہ ہے اَللّٰهُمَّ يَا حَفِيْظُ تَحْفَظْتِ بِالْحَفِيْظِ وَالْحَفِيْظُ فِي حَفِيْظِ حَفِيْظِكَ يَا حَفِيْظُ اَيْضًا مروی ہے کہ جو اس دعا کو ماہ صفر میں روزانہ پڑھے گا حق تعالیٰ اس کو اس سال تمام آفتوں سے بچائے گا۔ و عایہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاَوْمِيِّ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الشَّهْرِ وَ مِنْ كُلِّ شِدَّةٍ وَ بَلَاءٍ وَ بَلِيَّةٍ الَّتِي قَدَّرْتَ فِيْهِ يٰ اَدُّهُرُ يٰ اَدُّهُمُوْرُ يٰ اَدُّهُمَارُ يٰ اَكَانُ يٰ اَكِيْنُوْنُ يٰ اَكِيْنَانُ يٰ اَنْكُ يٰ اَبْدُ يٰ اَمْبُدِىْ يٰ اَمْعِيْدُ يٰ اَدَّ الْجَلَالِ وَ الْاَكْرَامِ يٰ اَدَّ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَحْرُسْ بِعَيْنِكَ نَفْسِيْ وَ اَهْلِيْ وَ مَالِيْ وَ وَلَدِيْ وَ وِثْيِيْ وَ وُدِّيَّ اَلَّتِيْ اَبْتَلِيْنِيْ بِصُصْبَتِهَا بِمُجْدَمَةِ الْاَوْبَارِ وَ الْاَوْخِيَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يٰ اَكْرِيْمُ يٰ سَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ يٰ اَشْدِيْدَ الْقُوَى وَ يٰ اَشْدِيْدَ الْمِحَالِ يٰ اَعَزِيْزُ يٰ اَغْفَارُ يٰ اَكْرِيْمُ يٰ سَّارُ ذَلَّلْتَ بِعِزَّتِكَ



جَمِيعَ خَلْقِكَ اِكْفِنِي عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُجِيبُ يَا مُفْضِلُ يَا مُنِمْ  
 يَا مُكْرِمُ يَا لَوْلَا اِلَهَ الْاَوَّلَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اس کے بعد یہ آیت  
 بھی تین سو ساٹھ بار پڑھے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُوْنَ ایضا حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  
 کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا کہ  
 سال بھر میں تین لاکھ بیس ہزار بلا نہیں نازل ہوتی ہیں لیکن جب ماہ صفر کا آخری  
 چہار شنبہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دن اور تمام دنوں سے زیادہ بھاری  
 ہوتا ہے جو آخری چہار شنبہ کے روز چار نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد  
 فاتحہ انا اعطیناک الکوثرات مرتبہ اور سورہ اخلاص پانچ مرتبہ اور معوذتین  
 ایک ایک مرتبہ پڑھے اور بعد سلام تین سو ساٹھ مرتبہ یہ آیت پڑھے وَاللّٰهُ  
 غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ اور پھر یہ دعا  
 پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو ان تمام بلاؤں سے اپنے کرم سے محفوظ رکھے گا۔  
 جو اس روز نازل ہوتی ہیں اور کوئی بلا اس بندہ کے پاس نہ آئے گی سال بھر  
 تک وہ دعائے معظم و مکرم یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا شَدِیْدُ  
 الْقُوٰی وَيَا شَدِیْدَ الْمِحَالِ يَا عَزِیْزُ ذَلَّتْ بِعِزَّتِكَ جَمِيعَ خَلْقِكَ  
 اِكْفِنِيْ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُجِيبُ يَا مُفْضِلُ يَا مُنِمْ يَا مُكْرِمُ  
 يَا لَوْلَا اِلَهَ الْاَوَّلَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ایضا سات سین لکھ کر  
 دھوکہ پی لے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ  
 رَحِیْمٍ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ  
 سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ سَلَامٌ عَلٰی  
 مُوسٰی وَهَارُوْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ سَلَامٌ عَلٰی الْیٰسِیْنَ

اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَانْزِلُوا  
خَلْدَيْنَ سَلَامًا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

پہلی شب میں بعد مغرب دو  
رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت

**ذکر نماز و دعائے ماہ ربیع الاول**

میں بعد فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر کر تین بار یہ ورد پڑھے  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَيْضًا تیسرے  
روز چار نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیۃ الکرسی ایک بار اور سورہ طہ اور  
سورہ یسین تین تین بار پڑھے اور ثواب روح رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے  
ایضاً دسویں اور بارہویں تاریخ کو تین سو ساٹھ بار سورہ اخلاص پڑھے ایضاً اسیسویں  
تاریخ میں دو نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ منزل ایک بار پڑھے  
بعد نماز سر بسجود ہو کر حق تعالیٰ سے جو چاہے مانگے اور بحضور دل یہ پڑھے يَا  
عَفُورُ تَغْفِرُتَ وَالْفَقْرُ فِي عَفْوِكَ يَا عَفُورُ

چوتھی تاریخ کی شب میں چار نفل  
پڑھے اور جتنا قرآن مجید چلے پڑھے

**ذکر نماز و دعائے ماہ ربیع الثانی**

پھر چالیس بار یہ اسم پڑھے يَا بُدُّوحُ يَا بَدِيعُ اَيْضًا پندرہویں تاریخ کو  
بعد چاشت چودہ نفل سات سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ  
اقراء سات بار پڑھے اور بعد نماز یہ اسم پڑھے يَا مَلِكُ تَمَلَّكَتَ بِالْمَلَكُوتِ  
وَالْمَلَكُوتُ فِي مَلَكُوتِكَ يَا مَلِكُ جو اس نماز کو ایک بار پڑھے تو اسے کئی باللہ  
وکیل کے معنی حاصل ہو جائیں اور ستر ہزار سال کی عبادت کا ثواب ملے۔

چاند رات کو دو نفل پڑھے پہلی اور  
دوسری

**ذکر نماز و دعائے ماہ جمادی الاول**

رکعت میں بعد فاتحہ سورہ جمعہ اور دوسری  
میں بعد فاتحہ سورہ منزل پڑھے۔ ایضاً پہلی تاریخ کے دن میں چار نفل پڑھے اور بعد فاتحہ  
ہر رکعت میں سات بار

اذا جاء نصر الله و طه ايضاً ماہ مذکور کی تیسری شب میں لیلة القدر ہے بہت سے صوفیوں نے اسے پایا ہے اگرچہ مشہور نہیں ہے مگر اس میں رات بھر بیدار رہے اور بیس نفل دس سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ القدر دس بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر یہ تسبیح پڑھے **يَا عَظِيمُ تَعَظَّمْتَ يَا الْعُظْمَةَ وَالْعُظْمَةَ فِي عَظَمَتِي عَظَمَتِكَ يَا عَظِيمُ** ایضاً ماہ مذکور کی اکیسویں شب میں بہت سے اولیاء کو معراج ہوئی ہے اس لیے اس شب میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہے ایضاً اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو آٹھ نفل دس سلام سے ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ والضحیٰ ایک بار پڑھے اس ماہ کی توہر شب میں بیدار رہے اور یہ تسبیح پڑھے **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اس ماہ کی عظمت اس عمل سے معلوم ہو جائیگی۔** چاند رات کو دو نفل پڑھے اور استغفار کثرت سے کرے۔ ایضاً اس مہینے کی دسویں تاریخ کو بارہ رکعت نوافل چھ سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ لیلہ پڑھے اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سال آخر تک تنگدستی و تکالیف سے محفوظ رکھے ایضاً اس ماہ کی آخری تاریخ میں بعد مغرب چار نفل پڑھے اس کے بعد یہ تسبیح پڑھے **صَبَّحَ بِكَ يَا شَمْسُ عَلَوْنِي** تاکہ آئندہ سال تک نظر مردم میں عزیز ہو۔

چاند رات میں بعد نماز مغرب بیس رکعت **ذکر نماز و دعائے ماہِ رجب** نوافل دس سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ اخلاص پانچ بار پڑھے اور بعد نماز نوافل تیس بار کلمہ طیبہ پڑھے۔ ایضاً پہلی تاریخ کو روزہ رکھے چنانچہ ارشاد نبوی ہے **مَنْ صَامَ**

یَوْمًا وَاحِدًا فِي شَهْرِ رَجَبٍ سَدَّ اللَّهُ عَنْهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ  
 اور بعد افطار دو رکعت نفل پڑھے بعد فاتحہ آیتہ الکرسی و مَعُوذَتَيْنِ ایک ایک  
 بار پڑھے ہر رکعت میں اور روزانہ بعد فجر سورۃ یٰسین پڑھے و روی عن عائشۃ  
 رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَدَّرَ بَعْدَ  
 صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ سُورَةَ يَسِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ  
 ذُنُوبَ حَمْسِينَ سَنَةً وَرَفَعَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ اَيْضًا نَحْوًا خَوَافًا وایس قرنی  
 رضی اللہ عنہ کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے سنی تھی ایک  
 روایت سے تیسری، چوتھی اور پانچویں رجب اور ایک روایت سے تیرھویں  
 چودھویں پندرھویں رجب اور ایک روایت کی بنا پر تیسویں چوبیسویں اور  
 پچیسویں رجب کو رات میں روزہ کی نیت کرے اور جب دن نکل آئے تو بعد  
 چاشت روزانہ غسل کرے اور کسی سے بات نہ کرے اور زوال سے پہلے چھ  
 رکعات نفل تین سلام سے پڑھے۔ پہلی چار رکعت میں بعد فاتحہ قرآن میں سے  
 جو چاہے پڑھے اور بعد سلام ستر بار کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ  
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ دوسری چار رکعتوں کی ہر رکعت  
 میں بعد فاتحہ اذا جاء نصر اللہ تین بار پڑھے بعد سلام ستر بار یہ پڑھے اِنَّكَ  
 اَقْوَىٰ مُعِينٌ وَاَهْدَىٰ دَلِيلٌ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  
 اور آخری چار رکعت کی ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ اخلاص تین بار پڑھے  
 اور سلام پھیر کر ستر بار الم نشرح پڑھے اور دایاں ہاتھ سینہ سے نیچے رکھے  
 اور سجدہ میں سر رکھ کر اپنی جو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے خدا نے  
 تعالیٰ وہ حاجت پوری کرے گا۔

نواز و دعاء لیلۃ الرغائب | نوچندی جمعرات کو روزہ رکھے جمعہ کی  
شب میں بعد مغرب بارہ رکعتیں چھ سلام

سے ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد فاتحہ انا انزلنا میں بار اور اخلص بارہ مرتبہ  
پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر سر سجدہ میں لے جائے اور ستر بار کہے سُبُّوحٌ  
قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھائے  
اور بیٹھ کر ورد پڑھے اور یہ دُعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ  
صَلَّیْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ الَّتِیْ اَمَرَهَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَخَیْرُكَ مِنْ  
خَلْقِكَ شَفِیْعَ الْاُمَّةِ وَكَاشِفَ الْغُمَّةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَاِنْ  
كُنْتُ مُقَصِّرًا فِیْ اِقَامَةِ حَقَائِقِہَا غَافِلًا عَنْ تَقْدِیْمِ شَرِّ اِطْلَہَا كَمَا  
تُحِبُّ وَتَرْضٰی وَمَنْ یَّتَطَبَعُ مِنْ عِبَادِكَ اَنْ یَّعْبُدَكَ وَیُطِیْعَكَ كَمَا یَنْبَغِیْ  
لَكَ فَاِذَا اعْتَرَفْتَ بِتَقْصِیْرِیْ وَقُلْتَ جَهْدًا وَاَقْرَبْتُ بِصُغْفِیْ وَ  
عَجِزِیْ فَلَا تَحْرِمْنِیْ جَزَاءَ تَصَدِیْقِ رَسُوْلِكَ وَثَوَابِ حُسْنِ الرَّغْبَةِ وَ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ سَأَلْتُكَ فَاغْفِرْ لِیْ سَلَامَةً لِّیْ وَرَحْمَةً  
عَلٰی عِبَادِكَ وَصَلِّیْ اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ  
بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ایضاً پندرہویں شب نماز استفتاح رجب  
کی دس رکعتیں پانچ سلام کے ساتھ ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ  
اخلص تین بار پڑھے بعد نماز سو بار استغفار کرے ایضاً نماز و دُعا  
شب معراج ستائیسویں شب ماہ مذکور میں بعد عشاء بارہ رکعتیں تین سلام  
کے ساتھ پڑھے اور بعد نماز سو بار پڑھے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ  
اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اور سو  
بار استغفار اور سو بار ورد پڑھے اور بیٹھا رہے پھر سجدہ میں سر

رکھ کر حاجت طلب کرے پوری ہوگی۔

شعبان کی چاند رات میں بارہ نفل ادا کرے  
**ذکر نماز و دعائے ماہ شعبان** اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ اخلاص

پندرہ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس ہزار نیکیاں لکھے گا اور وہ بندہ دس ہزار برائیوں سے دور ہوگا۔ ایضاً نماز و دعائے شب برات شب برات میں سو نفل پچاس سلام پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورۃ اخلاص دس مرتبہ بعد نماز سر بسجود ہو کر یہ دعا پڑھے سَجِدْ لَكَ سَوَادِي وَحَيَا لِي اَمِنْ بِكَ فَوَادِي وَاَقْرَبِكَ لِسَانِي وَهَا اَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَظِيمُ كُلِّ عَظِيمٍ اَغْفِرْ ذَنْبِي الْعَظِيمُ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ غَيْرُكَ يَا عَظِيمُ اَللّٰهُمَّ سَجِدْ وَجْهِي الْفُلْدِي لِوَجْهِكَ الْبَاقِي اَلِلهِي لَا تَحْرُقْنِي وَجْهًا نَحْرًا لَكَ سَاجِدًا۔ اور یہ دعا بھی پڑھے اَغْفِرْ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِوَجْهِ سَيِّدِي وَحَقِّ لِوَجْهِ سَيِّدِي اَنْ يَغْفِرَ الْوَجْهَ وَلَهُ بَعْدَهُ اَب بِيْطِهْ جَانِيْ اَوْ دَرُوْدِ پڑھے اور یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ اَرْرِ قَلْبِي قَلْبًا تَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ بَرًّا لَّا كَافِرًا وَاَلَا شَتِيًّا۔ خواجہ ذوالنون مصری روایت کرتے ہیں کہ شب برات میں بارہ نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ پچاس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے سو رکعت کا ثواب پائے۔ ایضاً ایک روایت ہے کہ شب برات میں دو رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی ایک بار سورۃ اخلاص پندرہ بار پڑھے۔

جب رمضان کا چاند نظر آئے تو یہ دُعا  
**ذکر نماز و دعائے ماہ رمضان** پڑھے اَللّٰهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ اَدْخِلْ عَلَيْنَا يَا مَنِّ وَصِحَّةٍ وَالفَرَاحِ مِنَ الشُّغْلِ وَاَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ حَتَّى تَنْقِضِيَ عَنَّا وَقَدْ غَفَرْتَ

لَنَا وَرَضِيتَ عَنَّا اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ حَضَرَ فَسَلِّمْهُ لَنَا وَ سَلِّمْكَ  
 لَهُ وَ سَلِّمْهُ فِي دِيَارِ مَنَّاكَ وَ عَافِيَةِ اللَّهِ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ يَقُولُ  
 مِنَّا بِإِيمَانٍ وَ إِحْتِسَابٍ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْكُسْلَ وَ الْفَقْرَ وَ السَّامَةَ وَ ارْزُقْنَا  
 فِيهِ الْخَيْرَ يُدْأُ لِأَجْتِهَادِ وَ الْأَجْرَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ كَمَا  
 تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَيْضاً

نماز و دعائے تراویح | رمضان المبارک کی ہر شب میں نماز عشاء کے دوران وتر سے پہلے بیس تراویح

دس سلام سے ادا کرے اور ہر چار رکعت کے درمیان ترویجہ میں بیٹھے  
 اور ان تسبیحوں میں سے کوئی ایک تسبیح پڑھے پہلی تسبیح لَا إِلَهَ إِلَّا  
 اللَّهُ وَ خَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ  
 وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ دوسری تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ أَوْحَدٌ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدَد مَا  
 عِلْمُ اللَّهِ وَ زِنَةَ مَا عِلْمُ اللَّهِ وَ مِلْءَ مَا عِلْمُ اللَّهِ تیسری تسبیح سُبْحَانَ  
 الْمَلِكِ الْجَبَّارِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ  
 الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَ خَالِقِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَ لَا  
 يَزَالُ چوتھی تسبیح سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي  
 الْعِزَّةِ وَ الْعُظْمَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْجَبَرُوتِ  
 وَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا پانچویں تسبیح  
 اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ غَفَّارُ الذُّنُوبِ  
 سَتَّارُ الْعُيُوبِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ وَ

يَا كَسَّافَ الْكُرُوبِ وَآتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَلِمَ ذَلِيلًا لَا يَمْلِكُ  
 نَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوَاتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا **بعد از تسبیح یہ دعا**  
 پڑھے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعْوَدُكَ مِنَ النَّارِ**  
**يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ**  
**يَا رَحِيمُ يَا يَا رُ اللَّهُمَّ اجْزِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ**

چاند رات کو بعد نماز مغرب چار نفل پڑھے پہلی رکعت  
**ذکر ماہ سوال** میں بعد فاتحہ سبح اسم ربک اور دوسری میں الشمس  
 تیسری میں **الضحیٰ** اور چوتھی میں **الم** بشرح ایک ایک بار پڑھے سلام پھیر  
 کر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

چاند رات کو تیس نوافل پندرہ سلام سے پڑھے  
**ذکر ماہ ذیقعدہ** اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ **اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ**

پڑھے جب پڑھ کر فارغ ہو جائے تو سورہ **عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ** پڑھے اسی ماہ کی  
 نویں کو دو رکعت نفل پڑھے ترقی درجات و تہجدات کے لیے اور ہر  
 رکعت میں بعد فاتحہ سورہ مزمل پڑھے بعد سلام سورہ **يُسَيْنِ تَمِينَ** دفعہ  
 پڑھے۔ ایضاً اس ماہ کے آخر میں بعد نوافل چاشت و نفل پڑھے اور ہر  
 رکعت میں بعد فاتحہ سورہ **القدر تین** بار پڑھے۔ سلام پھیر کر گیارہ مرتبہ  
 درود گیارہ مرتبہ سورہ **فاتحہ** پڑھ کر سجدہ کرے اس میں جو دعا  
 مانگے مقبول ہوگی۔

اس کی چاند رات کو دو رکعت  
**ذکر نماز ودعائے ماہ ذی الحجہ** نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد  
**فاتحہ** سورہ **الکافرون** ایک بار پڑھے ایضاً اس ماہ کی آٹھویں تاریخ جس



کو یوم الترویہ کہتے ہیں چھ رکعت نفل پڑھے پہلے چار رکعت کی نیت باندھے اور پہلی رکعت میں بعد فاتحہ والہر ایک بار دوسری میں لایلف قریش ایک بار تیسری میں قل یا یحیا الکافرون ایک بار اور چوتھی میں اذاجاد ایک بار پڑھے۔ پھر دو رکعت کی نیت کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ اخلاص تین بار پڑھے تو انشاء اللہ ترویہ کا ثواب پائے گا ایضاً عرفہ کے دن چار رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ سورہ انا انزلناہ تین بار پڑھے اور سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھے غار کے بعد ستر بار حضور علیہ السلام پر یہ ورد شریف بھیجے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اور ستر بار استغفار پڑھے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَيْضًا نَازِعِيْدَ الضُّعْفٰی اور اس کے خطبہ کے بعد چار رکعت ایک سلام سے پڑھے پہلی رکعت میں بعد فاتحہ سبح اسم دوسری میں والشمس تیسری میں والضحیٰ اور چوتھی میں سورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایضاً جو اس دُعائے سعادت کو اس ماہ کی آخری تاریخ میں اکیس بار پڑھے گا تمام احوال باطن کا مشاہدہ کرے گا۔ ابراہیم صاحب عمل کو چاہیے کہ روزانہ ایک بار پڑھے دُعائے مذکور یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا رَبِّ اَصْرِ مَنِيْ بِشَهْوَدِ اَنْوَارِ قُدْسِكَ وَايْدِيْ بِيْظُهُوْرِ سَطْوَاتِ سُلْطٰنِ اِنْسِيْكَ حَتّٰی تَقْلُبَ سُبْحٰةَ مَعَارِفِ اَسْمَائِكَ وَاَطْلِعْنِيْ عَلٰی اَسْرَارِ وُجُوْدِكَ فِيْ مَعْلَمِ شَهْوَدِكَ لِاَشْهَدَ بِهَا مَا اُوْدَعْتَهُ فِيْ عَوَالِمِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَاَعَانِيْ سِرِّيْ اِنْ سِرَّ قُدْرَتِكَ فِيْ مَعَالِيْ شَوَاهِدِ الْاَهْوَاتِ وَالنَّسُوْتِ وَعَرِّفْنِيْ مَعْرِفَةً تَامَةً فِيْ حِكْمَةِ عَامَّةٍ حَتّٰی لَا يَبْقٰی مَعْلُوْمٌ مَّرَالًا وَاَطْلِعْ عَلٰی دَقَائِقِ الْوَقَائِعِ

الْمُنْبَسِطَةِ فِي الْمَوْجُودَاتِ وَازْهَبْ بِهَا الظُّلْمَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ إِذْكَ  
 حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَتَقَرَّبْ مَا فِي الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ مِنْهَا بِجَاتِ الْمُحِبَّةِ  
 وَالْوَدَادِ وَالسُّشْدِ وَالْإِرْشَادِ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُحِبُّ وَالْمُحِبُّوبُ وَاللَّهُ  
 وَالْمُطْلُوبُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ وَيَا دَلِيلَ  
 الْمُتَعَيِّرِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَفِئِينَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَنْتَ رَبِّي  
 وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا بَيْنَ النَّاسِ مَغْرُورِينَ وَلَا عَسُ  
 خِدْمَتِكَ مَهْجُورِينَ وَلَا عَسُ بَابِكَ مَطْرُودِينَ وَلَا بِنِعْمَتِكَ مُسْتَدْرَجِينَ  
 وَلَا مِنْ الدُّنْيَا كَافِرِينَ وَلَا مِنْ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَا بِالَّذِينَ  
 وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

## ذکر صلوة الکسوف والحسوف

وَيُسَنُّ الصَّلَاةُ لَهُ بِاجْتِمَاعِ  
 الْمُسْلِمِينَ نَازِكَسُوفٍ وَحُسُوفٍ

کے مسنون ہونے پر اجماع امت ہے بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر بلاشبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی کی موت و حیات پر گرہن نہیں ہوتے تو جب تم انہیں گرہن ہوتا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور تکبیر کہو اور صدقہ دو اس بارے میں احادیث کثیرہ ہیں۔ نماز کسوف یعنی سورج گہن ہونے کی نماز میں طویل قرات مستحب ہے نماز کسوف سنت موکرہ دو رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں پہلی میں بعد سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دوسری میں سورہ اس عمران پڑھنا مستحب ہے اور اس میں قرات آہستہ کی جائے اس کے لیے اذان و اقامت بھی نہیں کہی جائے

گی۔ بعد نماز امام دعائیں مشغول رہے اور مقتدی آمین کہتے رہیں۔ دُعا اس وقت کی جائے کہ آفتاب روشن ہو جائے دُعا یہ بھی ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَهَا ضِيَاءً وَلَا تَجْعَلْ ظُلُمَاتًا اور نیت اس طرح کرے نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكَعَتِيْ صَلَوةِ الْكُسُوفِ اِقْتِدَايْتُ بِهَذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكُفَّةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ چار رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز خسوف یعنی چاند گہن کی صرف دو رکعت پڑھنا مستحب ہے اس میں جماعت نہیں ہے۔ الگ الگ پڑھی جائے ذکر صلوة الاستسقاء نماز کی نیت یہ ہے نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكَعَتِيْ صَلَوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكُفَّةِ مِیْنِ رَوْضَتِکَ پڑھیں دُعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا عَيْشًا مُّغِيثًا هَنِيْءًا مَّرِيْئًا غَدًا قَابِلًا وَسَمَاءًا عَامًا مُتَوَجِّهًا طَبَقًا اِنَّا اَللّٰهُمَّ عَلٰى الظَّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبَطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَائِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَاذْرِ لَنَا الضَّرْعَ وَاَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاِثْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ اِرْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُدَى وَاكْثِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُ غَيْرُكَ اس نماز میں مستحب یہ ہے کہ قوم میں جو شخص پر مہیزگار ہو وہ نماز استسقاء پڑھائے اور خطبہ و دُعا کرے اور مقتدی رب اس کے ساتھ دعا کریں اور کہیں اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَسْقِيْ وَنَسْتَشْفَعُ اِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلَاوِنِ نَمَازِ اسْتِسْقَاءِ مِیْنِ مَسْتَحَبِ وہی قراءت ہے جو نماز عید میں ہے۔ بعد قراءت پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہے پھر خطبہ پڑھے اور خطبہ طویل پڑھے اور اس خطبہ میں استغفار کرے۔

## تیسرا درجہ روزہ اور چلہ کے بیان میں

حضرت رسالتناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشائخ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ سالک واقفیت حاصل کرے روزہ اہل طریقت و حقیقت کی اور ان کی خصلتوں کی اور روزہ کی شرائط معلوم کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت عن اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں **يَا اَحْمَدُ بَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا اَوْلَى عِبَادَةَ الْعِبَادِ وَتَوْبَتِهِمْ وَقَدْ بَتَّهِمُ الْاَوَّاصُومُ وَالْجُوعُ** یعنی فرمایا اللہ نے اسے احمد ہماری بارگاہ میں کوئی عبادت روزہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اس ریاضت میں نفس و شیطان مغلوب ہو جاتا ہے اور سلطنت مجاہدہ و مشاہدہ و سخاوت و کشف و کرامات سے تعلق اور فہم و ادراک میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم باطن کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جسم کی صفت روحانی ہو جاتی ہے اور صفت روحانی روحانی بن جاتی ہے روزہ اہل طریقت یہ ہے کہ آنکھ حرام کے دیکھنے سے باز رہے یہ آنکھ کا روزہ ہے اور کان کا روزہ یہ ہے کہ ناجائز باتیں نہ سنے اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ بہودہ کلمات زبان سے نہ نکلیں اور دل کا روزہ یہ ہے کہ بجز تصور حق کے غیر کا خیال نہ آنے پائے۔ **قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصْرَكَ وَلِسَانَكَ** ترجمہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیرے کان اور تیری آنکھیں اور تیری زبان بھی روزہ دار ہو اور ہر صفت و نسبت کے ساتھ حق کی طرف متوجہ رہے۔ روزہ خالص حق تعالیٰ سے منسوب ہے **الصَّوْمُ لِحَقِّ**

وَأَنَا اجْزِي بِهِ جِوَّاسٍ بِرَعْلٍ كَرْتَا هِي تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ كَمَا مَجْسَمُهُ هُوَ  
 جَانَتُهُ هِيَ. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الصوم  
 نصف الطریقۃ یعنی روزہ نصف طریقت ہے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ  
 الْجُوعُ طَعَامُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي مَبْهُوكِ أَهْلِ زَمَنِ كَمَا يَسِيءُ اللَّهُ كِي رُوحَانِي  
 غِذَا هِيَ. سالک کو روزہ طریقت رکھنا چاہیے کہ شب و روز میں فرق نہ  
 رہے یعنی دن میں نہ کھائے تو رات کو بھی نہ کھائے چنانچہ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
 اجْبِعُوا بَطُونَكُمْ وَأَعْطِشُوا أَلْبَابَكُمْ وَأَعْرُوا أَجْسَادَكُمْ لَعَلَّ  
 قُلُوبَكُمْ تُرَى اللَّهُ عِيَانًا تَرْجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَا يَأْتِي بِبَطُونِكُمْ كَمَا  
 رَكْهُوا وَرَجْمُوا كَمَا يَأْتِي بِبَطُونِكُمْ كَمَا رَكْهُوا تَوَامِيدُكُمْ كَمَا تَهْتَكُونَ  
 دِلَّ اللَّهِ كَوَعِيَانًا وَيَكْهِنُكُمْ. کوئی عبادت روزہ سے بڑھ کر نہیں ہے  
 کیونکہ انسان روزہ رکھ کر صفت حیوانی سے گزر کر صفت روحانی کے ساتھ  
 متصف ہو جاتا ہے۔ رگوں میں فاسد خون روزہ کی وجہ سے خشک ہو جاتا  
 ہے اور حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عشق کے خزانوں میں اضافہ ہو  
 ہو جاتا ہے۔ فرحت دارین رونما ہوتی ہے۔ روزہ خلوت خانہ و محبت  
 ہے۔ جس نے محبت کو پرورش کیا وہ یقیناً محبوب ہو گیا اور مقصد میں  
 کامیاب ہوا۔ روزہ کے فوائد بے شمار ہیں حضور علیہ السلام نے احادیث  
 میں روزہ کی فضیلت بہت بیان فرمائی ہے۔

اس سے واقف ہونا ضروری ہے کہ چتہ پر اعتماد  
**سندار بعین** بزرگوں کو کہاں سے پیدا ہوا۔ حق تعالیٰ نے آدم  
 علیہ السلام کا پتلہ خاک کی چالیں روز میں بنایا اور اس مدت میں تمام  
 کمالات ظاہر کر دیئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَمَرَ تَطِينَةَ

اَدَّهَرَ بَسِيْدًا خَاْرًا بَعِيْنًا صَبَاحًا تَرْجَمَةً فِيْ رُوْزٍ  
 فِيْ اِسْمِهِ اَلْحَمْدُ سَيِّدِيْ تِيَارِيْ كِيَا. پس یہ ظاہر ہے کہ کان سننے لگے اور زبان گویا  
 ہوئی اور آپ کو بصیرت باطنی مکمل طور سے حاصل ہو گئی اسی طرح جب کوئی  
 خالص اللہ پالیس دل و خلوت اختیار کرے تو اس کے لیے فرماتے ہیں مَنْ اَخْلَصَ  
 لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ظَهْرَتْ لَهٗ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَبْلِهِ عَلٰٓى لِسَانِهٖ  
 ترجمہ جو خالص اللہ کے لیے چالیس روز خلوت میں رہے تو اللہ تعالیٰ حکمت  
 کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر فرماتا ہے۔ جب تک خلوت  
 و عزلت میں رہ کر خود کو پاک و صاف نہ کرے ہرگز دولت اہلیت نہیں ملتی  
 اور محب نہیں ہوتا چنانچہ ارشاد نبوی ہے اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَجِبَّتِ الْوُثُوْ  
 بِشِكِّ اللّٰهِيْنَ جُوْرًا هُوَ اَوْرَبِيْ جُوْرًا كُوْ اَسْنَدُ كَرْتَا هُوَ يَعْنِيْ تَهْمَا رَهْمَا وَ اَسْنَدُ  
 خلوت گزریں کو جاننا چاہیے کہ خلوت و عزلت و اعتکاف میں بڑا فرق ہے  
 اس کو تطویل کلام کے باعث یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ جس زاویہ میں چلہ کشی  
 کرے وہاں کسی کو آنے نہ دے اور مشغولیت میں کوشش کرے نفس کو عاجز کر  
 دے اور ہمیشہ روزہ دار رہے۔ افطار کے وقت طبیعت کے موافق نہ  
 کھائے اور لباس میں بھی نفس کی مخالفت کرے اور مخلوق سے کنارہ کرے  
 اور ہمیشہ بیچارگی و عاجزی سے رہے اکثر اوقات اپنے آپ کو ذکر یا فکر یا  
 مراقبہ میں مشغول رکھے اور مسلسل چلہ کشی کرے تو یقیناً اس پر حق تعالیٰ کی  
 عنایت ہوگی بِحُكْمِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ یعنی اللہ محسنوں کے اجر  
 کو ضائع نہیں کرتا ایضاً جب چلہ میں کوئی معاملہ یا معاہدہ رونما ہو تو اگر مرشد  
 قریب ہو تو کچھ واقعات پیش آئے ہوں وہ ایک ایک کر کے اس سے عرض  
 کر دیئے جائیں اور اگر مرشد نزدیک نہ ہو تو اپنا حال کسی ایسے دوست

سے بیان کرے جس کے حق میں زیادہ حسن ظن رکھتا ہو اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو خود ہی غور کرے کہ اس کی سیر کس درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر پہاڑ یا صحرا یا بیابان یا حیوان یا موالیہ نلثہ میں سے ان کی مانند جو کچھ بھی ظاہری و باطنی آنکھ سے نظر آئے تو سمجھ لے کہ اس کی سیر مرتبہ خاک میں ہے اور اگر بہتے ہوئے دریا اور بارش اور سمندر بہتے ہوئے چشمے وغیرہ اور گلستان اور اس کے مثل جو مشاہدہ میں آئے تو یہ تصور کرے کہ اس کی سیر مرتبہ آب میں ہے۔ اور اگر چہچہاتے پرندے اور خوش الحان جانور اور دیو اور ان کے مثل جو کچھ مکشوف ہو یا خود کو اڑتا ہوا دیکھے تو دل میں طے کر لے کہ اس کی سیر مرتبہ ہوا میں ہے اور اگر شعلہ آتش یا غلبہ عشق یا جن وغیرہ دیکھنے میں آئیں تو یہ جانے کہ اس کی سیر مرتبہ نار میں ہے اور اگر آسمان فرشتے اور ستارے نظر آئیں تو یہ سمجھ لے کہ مرتبہ نور میں سیر کر رہا ہے لیکن اسے چاہیے کہ اپنا مقام چھوڑ کر آگے بڑھے تاکہ اصل حقیقت سے حاصل ہو جائے اور سیر سے باز آجائے۔

## چوتھا درجہ خطرات قلبی کی حقیقت

پہلے ایسا وجود جسمانی کا علم حاصل ہو پھر حکمت معرفت زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جسدا نسائی میں آٹھ چیزیں مہیا اور موجود ہیں۔ جب وہ آپس میں گھل مل گئیں اور ان میں باہمی امتیاز نہ رہا تب پتلا خاکی کا خمیر جسم انسانی کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ آٹھوں چیزیں اصلی رنگ میں رنگ گئیں۔ ان میں چار ظاہر

ہوئیں اور چار باطن۔ اور چار ظاہر مخفی رنگ میں رہیں اور چار باطن چار حصوں میں تقسیم ہو گئیں اور استعداد کے مطابق ہر ایک کا ایک نام رکھا گیا۔

**دل مدور** | ذات و صفات کے نور سے منور ہے۔ اور

**دل عبرت** | میں انکشاف عشق عاشق و معشوق ہے اور سخی عالم اور

**دل صنوبری** | جامع جمیع صفات الہی ہے اور لطیف ربانی و نمونہ یزدانی ہے اور نگہبان و رہنما ہے یعنی باطن اور یہاں دل بمعنی

باطن کے ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ نِيَّ جَسَدًا ابْنِ اَدَمَ لَمْضَغَةٌ وَّ فِي الْمُضَغَةِ اَدْوَانٌ وَّ فِي الْفُوَادِ صَمِيرٌ وَّ فِي السِّرِّ اَنَا تَرْجَمًا ابْنِ اَدَمَ كَيْ جَسْمٍ فِي اَيْكٍ طَعْمٌ اَوْ كَوْشَتٌ كَا هِيَ اَوْ اِسْ طَعْمٌ فِي دَلِّ هِيَ اَوْ رَدْلٌ فِي ضَمِيرٍ هِيَ اَوْ ضَمِيرٌ رَا نَهِيَ اَوْ رَا نَهِيَ هُوں۔

**دل نیلوفر** | مرکز فروغ نفعانی اور معدن معانی ہے۔ کسوف طبیعت اسی سے ہے اور خسوف حقیقت اسی کی وجہ سے ہے۔

جب حضرت آدم کا ظاہر و باطن آراستہ ہو گیا تو ان دونوں کے ارتباط سے آپ کو بخار ہو گیا کیونکہ اجزائے آدم میں پہلے کوئی باہمی مناسبت نہ تھی۔ جو خصلت انسان کے ساتھ منسوب ہے اسی بخار کی وجہ سے آج ہر انسان میں ایک صفت مخصوص ہے اور خصلت کے اعتبار سے اس کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم نجوم میں بیان کیا گیا ہے اس و برک کو معلوم کرے۔ جسم آدم میں ظہور روح سے وہ بخار کا مزاج بن گیا اور روح کو اپنی خصلت میں لے آیا اس کو ہزاؤ کہتے ہیں۔ جب کوئی دوران



حال مر جائے تو اپنی حصلت کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے الخناس الذی یوسوس کا اشارہ اسی طرف ہے اور جب کوئی شخص تزکیہ و تصفیہ ایسا کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ خصائل اصلی نام کے ہمنام ہو جاتی ہیں۔ یہ بات واضح ہو کہ جب پتہ خاکی آدم علیہ السلام کا تیار ہو چکا تھا تو اس میں حرکت و حرارت نہ تھی۔ قادر مطلق نے فنخت فیہ من روحی کے فرمانے کے مطابق اس بے جان پتہ میں روح پھونک کر اسے زندہ کر دیا۔ اس میں جو بات پوشیدہ تھی حصلت کی نسبت سے ظاہر ہو گئی اس سے چار دلوں نے چار نفس کی نسبت کو پایا۔ وہ چار نفس یہ ہیں۔

- ۱۔ نفسِ امارہ
- ۲۔ نفسِ لوامہ
- ۳۔ نفسِ ملہمہ
- ۴۔ نفسِ مطمئنہ

① **نفسِ امارہ کی نسبت** | دل نیلوفر کے ساتھ ہے آیہ وَمَا  
أَبْرَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَوْمَانًا

بِالسُّوءِ اس پر شاہد ہے اور اس معنی میں حدیث بھی وارد ہوئی اَعِدُّ  
عَدُوَّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کے دو پہلو  
ہیں ظاہر و باطن اور یہ دونوں اعتبار سے ذلیل و خوار ہیں۔ یہ انسان کو  
بدی کی طرف کھینچتا ہے اور اسے حق راضی نہیں ہے۔ جو کام بغیر مرضی حق  
کے ہو گا اس میں سوائے ذلت و ندامت کے اور کچھ نہ ہو گا۔

② **نفسِ لوامہ** | نفسِ لوامہ میں نسبت دل صنوبری ہے آیہ کریمہ  
لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ یہ نفس بھی عدا

ملائف کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے کام فز و غرور کے ساتھ مشہور ہیں۔ سالک منزل اپنے حال سے آگاہ ہوتا ہے اس لیے رشد و ہدایت کی برکت سے اس سے ہوشیار رہتا ہے اور اس کی حسب منشا کوئی کام نہیں کرتا۔

اس کی نسبت دل عبرت کے ساتھ ہے آیت کریمہ

③ **نَفْسٌ مُّكْمَلَةٌ** | وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنزَلْنَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

اس کو الہام کیا گیا ہے اخبار ظاہر کا باطن کے ساتھ اور باطن کی اخبار کا ظاہر کے ساتھ اس کا بذات خود کوئی ایک مزاج نہیں ہے۔ یہ عطار و کا حکم رکھتا ہے سعد کے ساتھ سعد اور نحس کے ساتھ نحس۔ ریاضت کی ادنیٰ وجہ سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خیانت دور ہو کر صیانت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے اصل حال کی طرف پلٹ جاتا ہے۔

یہ دل مدور کے ساتھ منسوب ہے آیت کریمہ

④ **نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ** | يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي اس کا کام اس کے اختیار سے باہر اور اختیار رضائے حق سے ہوتا ہے۔ اس کے تمام افعال و احکام بارگاہ حق میں عزیز ہیں اس نے وہ مقام حاصل کیا کہ فعل محبوب محبوب ہو گیا۔ یہ جنت وہ جنت ہے کہ اس میں خیر کا گزر نہیں ہے۔ اس کی کتنی تعریف کی جائے چنانچہ یہ بات ظاہر ہے کہ حاجت بیان نہیں جب وہاں داخلے گا تو خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ واضح ہو کہ چار نفسوں کی خصائل سے چار خطرے نکلتے ہیں۔

یہ نفس اتارہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقام

① **خطرہ شیطانی** | اسفل ہے۔ سوائے خلل و ذلت کے اور

پھر اس کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ زبان درازی، ایذا رسانی اور جہل و زریاں کاری اختیار کر کے ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ جب سالک اس کی زیخ کنی چاہے تو رباعت کی بھٹی میں نفس کو پگھلائے اور ہمیشہ زجر و توبیخ کرتا رہے اور اس کی تمام خیانتوں کے شر کو کلمہ شہادت **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** کی تلوار سے کاٹ دے تاکہ یہ صفت و ماتم سے باز آئے اور صفت محمد کی جانب رخ کرے۔

یہ نفس لوامہ سے ہے۔ اس کا مقام وسط ہے اور

② **خطرہ نفسانی** اس کے بعض افعال کا تعلق موانست شیطانی سے ہے اور بعض کا موافقتِ نلہم سے اور بعض افعال اس کے اختیاری ہوتے

ہیں۔ ہمیشہ اپنی اصلاح و ترقی کا طلبگار رہتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے بہتر و بزرگ نہیں جانتا۔ حُبِ جاہ پسند کرتا ہے اور بزرگوں کے طعنہ و تشنیع و شکایات میں مشغول رہتا ہے کسی کو برحق نہیں سمجھتا اور خود کو برحق جانتا ہے لوگوں کے سامنے عجز اختیار کرتا ہے اور پیچھے تکبر۔ یہ بالکل نہیں جانتا کہ پہوگی کا آغاز و انجام کیا ہے۔ جب اس کو عیوب سے پاک کرنا چاہے تو بیداری شب اور کم کھانے اور بڑی محبت سے گریز کر کے نوافل کی کثرت کرے اور بے تعداد کلمہ طیبہ پڑھے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**

اس کا تعلق نفسِ نلہم سے ہے اس کا مقام بلند ہے۔

③ **خطرہ ملکی** اس کے بعض افعال بموانستِ خطرہ نفسانی ہیں۔

اور بعض خطرہ روحانی کے موافق اور مطمئنہ کے مطابق ہیں۔ یہ اکثر اپنے افعال میں مختار ہے اور خطرہ ملکی اس لیے اس کو کہا ہے کہ بعض ملک آتشی ہیں۔ اور بعض نوری اور بعض میں نور و نار دونوں ہیں جب نسبت نار غالب

آتی ہے خصائل نادر کو اختیار کرتا ہے اور حقیقت ناری کا الہام کرتا ہے۔ جب نسبت نور غالب آتی ہے تو عالم نور اور اس کی حقیقت کا الہام کرتا ہے۔ اور افعال عالم کا منتظر رہتا ہے۔ نیک کو نیک اور بد کو بد کہتا ہے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا جب ان دو نسبتوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اکثر مرتبے میں رہتا ہے اور شب و روز کا یہ محاسبہ کرتا ہے کہ کتنے کام مرضی حق سے ہوئے اور کتنے اس کی مرضی کے خلاف اور نفس سے محاربا کر کے اور اس کو مغلوب کر کے خصائل بد سے باز رکھتا ہے اور شمائل نیک کی طرف متوجہ کر کے اسی میں مشغول رکھتا ہے تاکہ وہ خطرہ و دفع ہو جائے اور صفت نوری اختیار کرے سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهُيَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحَبْرُوتِ خَطْرُهُ رُوْحَانِي: یہ نفس مطمئنہ سے ہے۔ اس کا مقام اعلیٰ علیین ہے۔ اوصاف اسمائے کیانی سے گذر کر متصف باسمائے الٰہی ہوا۔ اس کی قرار گاہ شہادت ہے اور جوہر سے موصوف ہے۔ حقیقت انسانی اس سے منسوب ہے۔ برزخ البرزخ و رب روحی اور رب الارباب یہی ہے خطرہ روحانی کو اکثر مشائخ نے رحمانی بتایا ہے۔ وہ عین اور اس کے عکس میں تمیز نہیں کر سکتے دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہرزنگ میں نمودار ہے اور دونوں عالم سے مجرّد یہاں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ مشائخ نے عارف باللہ ہونے میں کمال حاصل نہ کیا اس لیے خطرہ روحانی کو رحمانی کہہ دیا دوسرا یہ کہ اوصاف کو نہ پایا اور خود پر قناعت کی اس وجہ سے روحانی کو رحمانی بتا دیا

یہ محض ذات کی صورت خاص ہے جس کو بیان  
 ④ خطرہ روحانی کرنا پڑے گا۔ روح انسانی جانتی ہے کہ رب

روحی ہے اور انسان کی روح جو کچھ ظاہر ہوتا ہے نیک یا بد اس کو خطرہ روحانی کہتے ہیں۔ جب تجلی روحانی کا ظہور ہوتا ہے اور مشاہدہ و مکاشفہ و حضور، قبض و بسط تلویں و تمکین ظاہری و باطنی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ذوق و شوق بہر حال نمایاں ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بے ساختہ زبان سے یہی نکلتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ**۔ رب روحی کا تعلق رب الارباب سے ہے جب تعلقات بشری مکمل طور سے ختم ہو جاتے ہیں تو خطرہ روحانی رحمانی بن جاتا ہے رب الارباب کی مناسبت سے تو اس کو خطرہ رحمانی کہتے ہیں۔ سالک جب تزکیہ و تصفیہ کے بعد ان مراتب پر فائز ہوتا ہے تو تخلقوا باخلاق اللہ کا منظر بن کر وہ اور بھی حسن میں نمودار ہوتا ہے تو چاروں قلب ایک ہو جاتے ہیں اور چاروں خطرات ایک حقیقت بنتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ تمام اعضائے انسانی مجسم ایک قلب ہو گئے اور **قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ مَنْ أَصَابِعِ الرَّخِيمِ** اس کی صفت ہو گئی۔ اس موقع پر یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک صفت کے ساتھ منسوب ہو کیونکہ حق تعالیٰ کی صفات ذاتی دو ہیں۔ جلال و جمال اور ہر صفت ہدایت کے ساتھ منسوب ہے۔ صفت جلال بمعنی باطن کہ جلال اس کا مقام عظمت ہے اور صفت جمال میں اس کے حسن کا ظہور ہے کیونکہ جمال کبریا اس کا لباس شہود ہے۔ سالک محقق و موحد اس بات سے واقفیت حاصل کرے کہ خطرات خطرہ کی جمع ہے اس لیے ایک کو عالم سفلی سے منسوب قرار دے اور دوسرے کو عالم علوی سے اس لیے کہ دونوں کا جاننا ضروری ہے اور رو کرنے کا موقع نہیں بلکہ قبول در قبول کا ہے۔ کیونکہ جلال و جمال دونوں صفتیں اسی کی ہیں اور عالم باطن سے منسوب ہیں۔ واضح ہو کہ خدا کے رسول اس کو علوی کہتے

کہتے ہیں اور اکثر اعمال و افعال و نیات کو حق تعالیٰ سے منسوب سمجھتے ہیں اَلطَّرِيقُ  
 اِلَى اللّٰهِ بِدَا اَنْفَاسِ الْخَلَاِیْقِ ہر راہ راہ راست کے ساتھ منسوب ہے۔ غیر  
 کی نفی ہو جاتی ہے تو معبود حقیقی کا ظہور ہوتا۔ شَہِدَ اللّٰهُ اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ کَا  
 لَقَدْ سَوَدَا ہُوَ جَا تَا ہُوَ وَجُوہُ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلٰی رَبِّہَا نَاظِرَةٌ ہر دم وہ  
 ویدار حق برآوردہ ہوتے ہیں اور عالم ظاہر کے منسوب خطرات میں مست۔ جو سفلی  
 ہے اس کے برزخہ میں شہود معین ہے یعنی خاص جس کو سفلہ کہتے ہیں۔ ہر لحظہ  
 دوسرا ہی حُسن رُو نما ہوتا ہے۔ ہر شبلی خطرہ ہوتی ہے عاقل کو ہمیشہ غفلت سے  
 ہوشیار و خبردار رہنا چاہیے۔ خطرات پریشان و پراگندہ کو حقیقت کے گرد  
 جمع رکھے چنانچہ ذکر کیا گیا ہے نظم بالائے نہ پہر دو گو ہرند و راند۔ کن نور شاں  
 دو عالم و آدم منور اند۔ ہستند و نیستند و نہانند و آشکار۔ بیچوں ذات ذوالجلال  
 نہ جسم و نہ جو ہر اند۔ خطرات کی جو خاصیت و ماہیت تھی قلمبند ہوئی اس کی تشریح  
 کو اصطلاح مشائخ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی طبیعت جمع تکمیل و جمع تصحیح کے باہر  
 مواخذہ نہیں کرتی الحاصل جب خطرہ ان مراتب تک پہنچا تو بزرگی حاصل ہوئی  
 اور خطرہ نے رتبہ بلند پایا۔ پیغمبروں نے اسی خطرہ کی دو نسبتیں بیان کی ہیں اقل  
 صورت جذبہ کہ جس میں تمام بشریت فنا ہو جائے پھر یہی خطرہ سالک راہ ہو کر  
 تمام مخلوق کی رہنمائی کرے۔ کبھی احد ہوا اور کبھی احد سے احد ہو جائے انا احد  
 بلا مہم اسی سیر کی طرف اشارہ ہے۔ جب احد ہے تو کسی نسبت کے ساتھ  
 منسوب نہیں اور جب احد ہوا تو منسوب بہ رسالت ہو گیا۔ اَلْحَوٰکِیْمِ  
 رُوْحِ الْاَمِیْنِ جِبْرِیْلِ پَر دِلَالَتِ کَرْتَلَبِہٖ کہ وہ مضمون قرآن کو وحی میں لاتے  
 اور رسول کو قاب قوسین اودانی کی طرف لے جاتے جو الوہیت و ربوبیت  
 کو آراستہ کرتے اور جو خود فرماتے وہ حدیث کی طرف منسوب ہوتا افعال

رسول موجب عمل ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے یہی خطرہ کبھی احد کبھی احمد کبھی وحی کبھی رسالت کبھی ظاہر کبھی باطن کبھی حج کبھی کعبہ کبھی عصا کبھی کا سہ کبھی خرقہ کبھی پہننے والا کبھی راہ کبھی راہبر کبھی سالک کبھی مسلوک کبھی رقت کبھی اوقات اور خطرہ رحمانی پیشوائی برود عالم ہے جو مزین و آراستہ ہوا اسی سے ہوا اور جس نے اس کو نہ پایا گو بہر نایاب و ناسفتہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا جس صفت پر گردش کرتا ہے اسی صفت کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے کوئی در بند نہیں ہے تعین و ولاتعین اس کے سامنے ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے دل و دماغ کی کدورتیں جس قدر صاف اور زائل ہوں اتنا ہی کشف سے روشن ہو جائے گا۔

## پانچواں درجہ ذکر جہر و خفی میں

جس وقت سالک عبادت مذکور سے عہدہ برآ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ذکر جہر میں مشغول رہے تاکہ صفائے باطن حاصل ہو چنانچہ ارشاد نبوی ہے  
 لِكُلِّ سَيِّئٍ مَّصْقَلَةٌ وَمَصْقَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى اس حد تک ذکر کی کثرت کر لے کہ مردہ دل زندہ ہو جائے اور حق تعالیٰ سے موانعت پیدا ہو جائے اس بارے میں حدیث قدسی بھی وار ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي فَاِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَاِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٌ مِنْهُ تَرْجَمَهُ لِيَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بند کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے

یاد کرے پس اگر وہ مجھے تنہائی میں کرے تو میں میں بھی اسے تنہائی میں یاد کروں اور اگر وہ مجھے جمع میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جمع میں یاد کروں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وجود انسان میں عجیب سیر ہے اور نادارگان سے تعین میں بیت:۔  
تو یقینی وجہاں حمد گماں من بریقین مدتے شد کہ یقین راز گماں می بنم

نیت ہست نہیں ہوتا اور ہست نیست نہیں ہوتا۔ یہاں اسے صرف جاننا اور پانا ہے تو جس طرح اسے یاد کرے گا اسی طرح اسے پائے گا۔ ذکر جہر سے لذت ظہور حاصل ہوگی اور ذکر خفی سے حقیقت تک رسائی ہوگی۔ محبت کے لئے بقراری لازمی ہے اور معشوق کے ساتھ ہر لحظہ دم سازی ظاہر میں محبت اتنا پریشان کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کے باطن مخفی نہیں رہتی اور باطن میں ذکر ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کا ظاہر باطن ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ باطنی ربط ظاہری آشنائی حب دلخواہ پیدا ہوتا ہے فَادُّوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ اس معنی کی تائید میں ہے۔ ایسا کون بد نصیب و شقی ہے کہ نقد سو دے کو چھوڑ دے۔ عجب راز ہے کہ سر ربو بیت ذکر الوہیت کا مبادلہ ہو جاتا ہے اور بندہ کی طرف اس کے ذکر کے باعث حق تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے زہے سعادت انسان کہ جب وہ بکمال نیستی حق کو یاد کرتا ہے تو وہ بکمال ہستی اسے یاد فرماتا ہے اور مقبول بارگاہ بنالیتا ہے اور یہ محض اس کا کرم ہے واضح یہ عظمت کا وقت نہیں ہے فَصَعْنَانَا عَنْكَ غِطَاءَكَ چشم بصارت سے غیر کا پردہ دور کر دے اور کسب ریاضت اختیار کرے اور ذکر و فکر کو پیش نظر رکھے اور تکلفات ظاہری سے آزاد ہو کر نام خدا کا ایسا عاشق و شیدا بن جائے کہ جب سنے بیقرار ہو جائے اور ہمیشہ افضل ذکر میں مشغول رہے قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ



نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی طرف جانے کا قریب ترین راستہ بتائے جو اس کے بندوں کے لیے زیادہ آسان ہو اور اللہ کے یہاں زیادہ فضیلت والا ہو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے علی ہمیشہ خلوت میں اپنے حق میں ذکر اللہ تعالیٰ کو پابندی سے لازم جانو تو حضرت علی نے کہا یہی فضیلت ذکر تمام ذکر کرنے والے لوگوں کی ہے پس حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے علی روئے زمین پر جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی پس آپ نے کہا یا رسول اللہ میں کس طرح ذکر کروں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بند کرو اور بھر سے سنو لا الہ الا اللہ تین بار اور علی سن رہے تھے پس علی نے پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہا اور حضور سن رہے تھے چنانچہ منہ تھی ذکر کر دی گئی۔ طریقہ کار کو خوب سمجھنا چاہیے جیسا کہ اگلے بزرگوں اور مشائخ نے بتایا ہے کہ پالٹی مار کر بیٹھے اور بند کیماس کو بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے مضبوط پکڑے اور دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں کھلی رہیں تاکہ ان سے اللہ کا نقش ظاہر ہو اور سر بائیں زانو کی طرف اتنا جھکائے کہ دائرہ ہی خنصر قدم تک پہنچ جائے اور یہیں سے لا الہ کا آغاز کرے پھر زانوں سے راست کی طرف سر لاکر سیدھے شانے کی طرف لے جائے تاکہ سر اور کمر برابر ہو جائے اور ذرا سر دائیں شانہ سے پشت کی طرف مائل کرے اور وہاں تیر اندازوں کی طرح واپسی پر جیسے لا الہ کی آواز اوپر کی جانب گئی تھی اس طرح نیچے کی طرف لے آئے معلوم ہونا چاہیے کہ جو مقدار نفی ہے وہی مقدار اثبات ہے۔ جب لا الہ کہے نفی و لطفلاً غیر کا تصور کرے اور جب لا الہ کی ضرب لگائے تو واجب الوجود کو ثابت جانے جب اس طرح ذکر کرے گا وجود عیان کی نفی کرے گا اور عین کو

ثابت جانے گا اور جب یہ فکر قرار پائے تو مسلسل لا الہ الا اللہ کہتے تاکہ سالک بخود ہو جائے اور جب جدائی پیدا ہو بے اختیار بخت بیدار ہوگا اور ارادت باطن حاصل ہوگی جب دس پندرہ یا بیس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے تو تصور میں محمد رسول اللہ کہے کیونکہ جب خطرہ محل دیکر چلا جاتا ہے تو واپس آجاتا ہے یہ سزا اگرچہ بصورت مسئلہ لکھی گئی ہے لیکن بعض ارکان بغیر مرشد کے معلوم نہیں ہو سکیں گے لا الہ الا اللہ ایضاً جب سالک مذکور کو قرار دے تو اسے چاہیئے کہ وہی ذکر چار ضرب کے ساتھ کرے۔ جلد و قاعدہ و درود و ضرب اول جس طرح مذکور ہے اسی طرح کرے پہلے ایک ضرب سیدھے زانو پر اور ایک ضرب دونوں زانوؤں کے درمیان لگائے اور پلے درپلے ورزش کرے تاکہ فنا فی اللہ حاصل ہو۔ پہلی ضرب بدور لا الہ الا اللہ اور دوسری ضرب لا الہ الا اللہ کی لگائے۔ ایضاً جب ذکر جہر سے تھک جائے تو پھر ذکر لا الہ الا اللہ خفیہ کرے۔ اس کو بزرگ پاس انفاس کہتے ہیں۔ جب سانس باہر آئے تو لا الہ کہے اور سانس باہر جلتے وقت مقعد و معدہ اوپر کھینچے اور پیٹ کو پیٹھ کی طرف لیجا کر آندھی کی طرح تیزی سے لا الہ کہے تاکہ دل میں گرمی پیدا ہو اور ماسواہی اللہ جل جائے اور جب سانس اندر جائے تو اس کے ساتھ لا الہ کہے اور اندرونی سانس کو لا الہ کے ساتھ کھینچے تاکہ پیٹ بھر جائے اور سستی حاصل ہو۔ اگر اس طرح عمل کرے تو بہت فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب لا الہ سانس کی قید میں ثقیل معلوم ہو پس لا الہ لا کہے اور مختصر لا الہ ہو۔ جب سانس باہر آئے بطریق لا کہے پھر جب سانس اندر جائے تو اسی طرح ہو کہے۔ بلکہ ذکروں میں ہو سیری عظیم ہے اور اثنان تعین و لاتین ہے یہ عمل سے ظاہر ہوگا۔ ایضاً جب سالک نفی اثبات سے

گزر جائے تو اسے چاہئے کہ ذکر اثبات میں مشغول ہو اور ہر طرف اثبات کرے کہ **لَيْسَ الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** کل قیامت میں سُننے گا اور اتنی کوشش کرے کہ بغیر کان کے آج ہی سُننے سند جلسہ کہ مشائخ سے مذکور ہے ملحوظ رکھے اور **اللا اللہ** کو چار ضرب اور چار کوب کے ساتھ عمل کرے اور ہر جانب ایک ضرب اور ایک کوٹ خود میں اور ایک ضرب اپنے ساتھ اور ایک کوب اپنے اندر۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ درمیان ضرب و کوب **اللا اللہ** کہے اور بعض نے کہا ہے کہ ضرب میں **اللہ** کہے اور کوب میں ہو درمیان ذکر ہو فکر کو اسی سند پر برقرار رکھے۔ ایضاً جب سالک ذکر اثبات سے گذر جائے تو ذکر اسم ذاتی میں مشغول ہو اور دیوانہ وار **اللہ اللہ** کہے جیسے وحی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ آواز بلند یہ ذکر کرتے تھے بعض لوگ کہتے تھے کہ محمد عاشق خدا ہے اور بعض کہتے تھے کہ مجنون ہو گیا ہے (نعوذ باللہ) کہا کہ **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْوَحْيِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَيُّ قَالُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا إِنْ مُحَمَّدًا قَدْ عَشَقَ رَبَّهُ** اور یہ تحقیق ہے کہ آپ جب تک ذکر جہر سے کرتے وہ ایسا نہ کہتے اور اس باب میں حق تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند آواز سے ذکر کرنے کے متعلق **وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكْفُرُونَ** عَلِيهِ لِبَدًا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر کھڑے ہو کر ذکر حق تعالیٰ ایسے ذوق و شوق سے عاشقانہ انداز میں کرتے کہ انسان دیوپری میں جو دیکھتا آب کے قدموں میں گر جاتا۔ اسے عزیز آگاہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی استعداد کے باوجود کیا کیا کرتے تھے باوجودیکہ ان کا جسم روح تھا اور ان کی روح

اس کی ذات ہے۔ اسے عزیز تو تو تمام بشریت ہی ہے ایسی کوشش کو اور عمل کر کہ آثار بشریت مرتفع ہو جائیں اور تو متصف بصفات اللہ ہو جائے اور تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا نتیجہ حاصل ہو۔ سند ذکر جاننا چاہیے کہ کہ رو قبلہ بیٹھے اور دائیں شانے سے بائیں شانے تک سر کو گھماتا لائے اور لفظ اللہ شدت و سرعت سے کہے اور ہر بار لفظ اللہ کہہ کر اسمائے حسنیٰ میں سے ایک ایک اسم کے ساتھ متصف ہوتا جائے گا اس طریقہ سے ۱۰ ماہ ق ۱۵ س الی آخرہ ایضاً جب سالک اس سے آگے بڑھے تو ارکان ثمانیہ میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہ ذکر دل کی کنجی ہے جبکہ دوسرا ذکر ریاضت کاملہ کے ساتھ ایک سال تک کر لیا ہو اگر اس کی ایک کشت صدق کے ساتھ کرے تو سال بھر کے ذکر کے فتح باب کی برابر مقصد میں کامیابی ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ ذکر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سلطان العربین بایزید بسطامی کو عطا کیا تھا۔ جب کوئی رکن ارکان میں سے بغیر تصور تصدیق جاری ہو تو ثبات ولا یفتح بہ ایں تفصیل برزخ صغریٰ و کبریٰ و ذات و صفات و شد و مد و تحت و فوق اور ملاحظہ مذکورین ایک ایک میں تصور کرے تاکہ ایک ہو جائے اور اس ایک کو ایسی قوت جلنے اور اتنی سختی کرے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے۔ ہویت خالص ہو جائے۔ جب اس مقام سے تنزل کرے تو ایک دم عالم سفلی میں جا کر نہ گرسے۔ احدیت الجمع میں پہنچے اور ذات و صفات کی تجلی ہو۔ سوئی کا نکوا اپنے فعل سے بنائے۔ طریق ذکر ان حروف سے منسوب ہے۔ رب (ص ت م ف) بیت برزخ ذات و صفات و شد و مد و تحت و فوق می نماید طالباں را کل نفس ذوق و شوق:

## درجہ ششم یعنی چھٹا درجہ مراقبہ میں

جب سالک حالات مذکورہ سے گذر جائے تو اس کو چاہیے کہ مراقبہ میں مشغول ہو کر معنی مخصوص کو دیکھے اسم ذات کو دل پر مسلط کر کے اس کی تجلی سے دل کے وہم کو دور کرے اور الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نُورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ کے نور سے اسے منور کرے۔ سند سلوک کو سمجھے کہ قمر کی دو صورتیں ہیں ایک فائض اور دوسری مفیض ہے۔ یہ آفتاب کے مقابل فائض یعنی اس سے فیض لینے والا ہے اور عالم سفلی کے لحاظ سے اس کا یہ مفیض یعنی فیض دینے والا ہے۔ آفتاب کے وظائف و اعمال سالک میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور آفتاب بذات خود نور ہے اور ہر دو جانب نور رکھتا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی۔ آفتاب کے اوپر تین سواکٹھ نفوس فلیکہ ہیں اور یہ سب کی سب آفتاب کے نور سے روشن ہیں۔ سالک بھی طلعت آفتاب میں تمام کو طے کرتا ہے اور ماہیت عموم خصوص سمجھتا ہے پھر ان اسمائے کیانی سے گذر کر تسمیہ اسمائے الہی میں آتا ہے۔ یہ مرتبہ عظیم ہے متجلی بذات و متجلی بحسن خود ہے اور ظہور مرتبہ اعظم اسم ثقہ سے ہے الشِّقَّةُ اسْئِرَالِہِ تَعَالٰی فِی مَرْتَبَةِ الْوٰجِبِ۔ اس مقام سے آگے نہیں جاسکتا۔ جب اپنی صورت نظر نہ آئے تو مرشد کامل سے صورت مراقبہ سے حاصل کرے الحدیث اسے صبح دم صفائے رخ یار من نما: بنیم رخ جمال شود سینہ ام صفا: ایضا جب سالک اس سے گذر کرے تو اس کے بعد مراقبہ میں سر جھکانے کہ جملہ اسرار اس سر میں مخفی ہیں۔ بدن انسان میں شش جہت سے ایک ہی ندا و صدا سنی جائے

گی کہ ہمیشہ بہر حال ایک ہی حال برابر ایک ہی طور گزرتا ہے لیکن انسان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ اس کے وجود میں اس کے ساتھ کیا چیز ہے اور کیا کیا کیفیات طاری ہو رہی ہیں جب پیر و مرشد کے کرم سے اس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی تو ایسا مستغرق ہو جائے گا کہ چنیں و چناں کچھ نہ رہے گی اور اکثر ہنوی حضرت حق میں رہے گا کھانا پینا بھی اسی کے ساتھ ہوگا چنانچہ ارشاد نبوی ہے

أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي اب اس کی منزل یہ مقام ہوگا۔ اگر چالیس سال کے بعد بھی اس منزل پر پہنچے تو شریعت کی پناہ کی نگہداشت ضرور کرے اور اگر چالیس سال کے اندر ہی اس مقام پر پہنچ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے قید و آزاد و بیباک ہو جاتا ہے۔ رُو و قبول نظر میں نہیں آتا چنانچہ السُّوَالُ رُو وَالطَّرِيقَةُ سَدُّكَ کے انجام کو سمجھ لے کہ جب اس کے کام کی ابتدا ہوگی تو تمام کاموں سے بچتا ہو جائے گا تاکہ وہ اہل کار کے نام سے موسوم کیا جائے۔ اور یہ مقام جلال عظمت ہے کہ حجاب عزت میں محتجب ہے اور کمال استغناء میں منفرد۔ صفات ثبوتی سلبی ہو جاتی ہیں اور پردہ غیب میں آجاتی ہیں الا ان کما کان وکان اللہ ولا مشئ معہ ترجمہ وہ اب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور اللہ ہے اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں۔ وہ کسی عنوان و رنگ سے منسوب نہیں ہوتا اور ہر صفت سے الگ ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اپنے کرم سے یہاں پہنچاتا ہے مراقبہ یہ ہے اس صورت سے ہو ہو۔ و۔ ایضاً سالک یہاں سے گذر کر مراقبہ میں دل مدور ملاحظہ کرتا ہے۔ دل مدور منور ہے نور ذات سے اور اور گوہر درخشندہ ہے اور دلیل روشن و اثق ہے۔ وجود ممکن اور وہ روح القدس سے تبیر ہے کہ وَ اَيُّدُنَا بُو فُوحِ الْقُدُسِ اس کی شان میں

صادق ہے۔ یہ مکان و اشیاء سیرغ ہے۔ حقیقت انسانی کہ وجود عالم سے  
تعبیر کی جاتی ہے وہ واجب الوجود سے فیض حاصل کر کے دوسرے ممکن  
الوجود کے لیے فیض پہنچانے والی ہے وَجُوهُهُ يَوْمَ يُبْذَرُ نَظْرُهُ إِلَىٰ رِبَّهَا  
نَظْرُهُ یہی مقام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ وعدہ دیدار قیامت کا ہے تو وہ  
یہ سمجھ لے کہ اس آیت میں اسم رب آیا ہے اور رب کے معنی پالنے والے  
کے ہیں یہ عالم تکوین کی تجلی خاص ہے۔ جس روز ان کے چہرے تازگی حاصل  
کریں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھ کر تو منور و شاد ماں ہوں گے۔ یہ سودا  
حال ہے سرمایہ مستقبل پر نہ ٹلے گا اَرَقِي دَانَسْتُ نَارًا كَوْمِي نَهْ جَانِي كَا۔  
اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيُّنَمَا كُنْتُمْ بَلِ اخْتِيَارِ نَلْكَ كَا فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِشْمًا  
وَجِبَةُ اللَّهِ نَظَارَهُ كَرَسِي كَا اور بہشت عالم علوی سے تعبیر ہے و ہاں دیدار  
بنفسہ ہے بالغیر نہیں کیونکہ وہ محل وجودی ہے اور وجوب کو مغایرت  
نہیں ہے۔ اگر کسی کو پیر و مرشد کی عنایت سے یہ مراقبہ حاصل ہو جائے  
تو ہمیشہ اس کی نظر اسی پر لگی رہے گی۔ مکمل آفتاب کو نظر دیکھتی ہے اور ہار کی  
ذرہ کے لئے اندھی ہو جاتی ہے کَا فِ كَا نِ فِي دَعْمَائِهِ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ  
وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ سے نکلتا ہے جب آفتاب حقیقی طلعت کرتا ہے  
تو اس کو بے پردہ دیکھ لیتا ہے اور دَا أَيُّتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ كَا نظارہ کرتا ہے جب عالی ہمت نظارہ کرتا  
ہے تو کند محبت گنگرہ عرش میں ڈال لیتا ہے اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ  
اِسْتَوٰی اپنی مناسبت سے خود کو پاتا ہے چنانچہ اُن بزرگ ہستی نے  
فرمایا رَا أَيُّتُ رَبِّي لَيْلَةَ الْمِعْدَاجِ عَلَى صُورَةٍ شَابٍ قَطِطٍ فَوَضَعَ  
يَدَيْهِ عَلَى كَتِفَيْ فَوْجَدَتْ بَرْدًا أَنَا مِلِهِ فَعَلَيْتُ بِهَا عَلِيمَ الْوَالِيْنَ

وَالْآخِرِينَ جملہ اس کو کثوف ہو جائیں گے آخر ہدایت پا کر خود نایاب ہو جائے  
 گا طریق تفکر کو معلوم کرے تَفَكَّرْ مَسَاعَةً فَأَنْضِلْ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً  
 اس کو جاننا اور اس عمل کو حاصل کرنا ہر ذات پر فرض ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ  
 عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمَسْئَلَةٌ وَأُطْلَبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِأَلْحِشِيِّنِ حَكْمٌ كَامِلٌ هُوَ وَاضِحٌ  
 حُكْمٌ حَدِيثٌ قَطْعِيٌّ هُوَ۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنے اس حصول علم میں جتنا  
 بھی دور جانا پڑے اس کو دوری نہ سمجھے اور اس نکتہ کو نظر میں رکھے کہ ظہور  
 سے پہلے علم تابع معلوم تھا کہ بے معلوم کئے علم نہیں ہوتا تھا اور ظہور کے بعد  
 معلوم تابع علم ہے کیونکہ بغیر علم کے معرفت حاصل نہیں ہوتی الْمَعْرِفَةُ إِزْدِيَادُ  
 الْحِكْمَةِ جَبَّ عِلْمٌ سَعَى مَعْرِفَتٍ وَحِكْمَتٍ كَادِرٍ وَازِهِ كَهَلْتَابِ هُوَ تَوْ مَعَانِدُ  
 عَيْنِ آيِنُهُ هُوَ جَاتَابِ هُوَ قَلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا شَهَادٌ مُطْلَقٌ هُوَ اس لئے پردہ  
 علم اپنے سامنے سے خود اٹھ جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ مذکور آنکھ کی پتلی میں  
 آنکھ ہی سے ہوتا ہے۔ آنکھ کی پتلی میں دس دروازے ہیں اور ہر دروازہ  
 اپنی استعداد کے اعتبار سے معنی خاص و عام کے لیے فائض و مفيض ہے  
 اور دسواں دروازہ سر میں ہے کہ اُسے أُمُّ الدِّمَاغِ کہتے ہیں فیضِ علوی و  
 ادراکِ علم و حکمت و عقل اسی سے ہے۔ جب کوئی اسرارِ غیوب معلوم کرنا  
 چاہے تو وہاں اپنے دہم کو دور کر کے ستارہٴ مشتری کی طرح ہمیشہ حرکت میں  
 رہے۔ جب سالک چھ مہینے تک اس کی پابندی کرے گا تو پھر ماہ کے بعد  
 صورت خاص متجلی ہوگی اس صورت سے۔



## سائلوں درجہ صورت اور تصدیقات کے بیان میں

جب سالک چھ درجے طے کر لے تو اس کے بعد قدم عدم راہِ قدیم میں رکھے اور حضرت حق میں پہنچ کر احکم الحاکمین کو ازل سے ابد تک دونوں ساحلوں میں سطوت و جودِ مسجودات سے پہنچانے اور ابتدا و انتہا کا ادراک کرے۔ اس حقیقت کو دریافت کرے جو رنگین ہو کر عالم سے شہادت میں آئی اجمال و تفصیل کے ساتھ عالم کبیر و صغیر میں انسان عالم کبیر ہے اگرچہ بصورت صغیر ہے اور یہ بات اس دلیل سے صادق ہے **اَلْعَالَمُ مَا يَعْلُوْ بِهٖ الشَّيْءُ** کہ معنی خاص و عام ماہیتاً و حقیقتاً تقدیماً و تاخیراً اجمالاً و تفصیلاً انسان ہی سے ظاہر ہوئے۔ انسان کو انسان سے پہنچانے کہ انسان فوق عالم ہے **اَلْاِنْسَانُ مُطِیٌّ وَ جَمِیْعُ الْاَشْیَاءِ مُطِیَّةٌ** و دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عالم کر و می اکا ہوا ہے صفت تکوین کے ساتھ اور انسان تقویم ہے۔ ذات و صفات کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے۔ الحاصل صاحبِ حسن کا آٹھ چیزوں پر انحصار ہوا۔ تکوین نے ہر رنگ میں رنگ کر ایک کی نرمی کو اختیار کیا **اَلْحَبَابُ صِفَةٌ قَدِیْمَةٌ مُّصَشَّحَةٌ اَعْلُوْ بِرِ مَکَانَ** میں اپنے مقام کو بند کر کے پردہ تکوین میں ظاہر ہوا۔ اندازہ طلب سے جس حسن کا اندازہ کرنا چاہا کر لیا اور صورت تکوین میں مضبوط ہوا کہ مکان لا مکان اس کا ارادہ ہے اور قوت قدرت اس کا مقام ہے اور ہر ایک کی حسب استعداد انتظام فرماتا ہے۔ چار باطنی مقامات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چار ظاہری کو بھی جاننا چاہیئے۔

اصحاب تو جہد اپنے افعال کے عارف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شخص واحد کثیر نہیں ہے اپنی کثرت سے عالم کبیر کے چار دروازے ہیں۔ ہر دروازہ کے لیے ایک رسول ہے اور ہر رسول کیلئے کتاب آسمانی ثابت ہے۔ مطلق و مقید کے معنی ایک ہی ہیں قلم قدرت خطا سے پاک ہے۔ ارباب تحقیق بھی یہی کہتے ہیں کہ عالم کبیر کے چار دروازے ہیں اور ہر دروازہ کا ایک رسول ایک کتاب محقق ہے چاروں رسول حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ مقید کو ہٹا کر مطلق کو سامنے رکھتے ہیں۔ مطلق سے ان کا شب و روز ان کو کام ہے۔ ان کا غفلت سے ہوشیار رہنا حضور و بیداری ہے۔ جو ایک سنتا اور سنتا ہے دوسرے کو اس کی خبر نہیں، جو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے۔ دوسرے کی اس پر نظر نہیں پڑتی۔ وہ جو کچھ کشف و لطیف کو جانتا ہے دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلتا جو کہتا ہے اور کہلو آتا ہے اس گفتگو کا دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اسقاط اضافات اس تصدیق کے تصور میں رہتا ہے اس اشارے پر سب عک ایضاً جب سالک اس سے گذر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے تصورات کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ظہور موجودات و وجودات پر تہجد و امثال کی صورت میں ہے اور وجودات سے صورت و شکل پاکر اور روح مجسم ہو کر فرق و امتیاز باقی نہیں رہتا۔ یہ عالم عالم وجود ہے عالم عدم نہیں ہے اگرچہ یہ عالم دوسرا حسن اختیار کر لیتا ہے۔ عارف اقوال و اسماء و افعال کو دیکھتا ہے تو سب میں ان کو فعل حقیقی سے تصور کرتا ہے اور سات درجوں سے گذر کر بے نشان ہو جاتا ہے پھر بے نشان سے خود کو نشان میں لاتا ہے ہر حال کو ہمیشہ بر ملا افعال عالم کے ظاہر و باطن میں محو جستجو رہتا ہے چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اگر سالک محرم راز گشت

بہ بند بروی در باز گشت

ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ بشریت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ناظر و منظور و نظر ایک قبیلہ ہو جاتا ہے۔ شَهِدْتُ لِي لِنَفْسِي اِنِّي اَنَا اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا وَخَدِي لَوْ شِدِّيكَ لِي اس کے حال کا سودا ہو جاتا ہے اس نے عالم شہادت کو شہود جانا اور شَهِدَ اللهُ اِنَّهٗ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ کو موجود پایا عالم معنی ادراک ہے جب غیب سے شہادت میں آتا ہے تو تجلی حسن کی رونمائی ہوتی ہے يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ اور منور کرتی

ہے جب پردہ و الیل اذا يغشى سر سے اترتا ہے تو اسے سر پر نہیں ڈالتا بحکم آیه کریمہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا وَاثْمُوْا اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰزَدُوْا كُفْرًا يٰہاں اختیار نہیں خوش قسمتی کا کام ہے جس نے سمجھا اس نے سمجھا جو نہ سمجھا وہ بے سمجھے گیا۔ شاغل کو اس شغل میں مشغول ہو جائے تو اپنے مکاشفات باطنی کھل جائیں اس صورت سے

ق م ا د ی س ہ ی ع ب م ی ر ع ل ی م ر س ح ی س ج م ک ل ی م ع ل ی م ب م ی ر

س ہ ی ع م ی ر ق م ی ر جب سالک اس مقام سے گذر جائے تو اس کے بدن اس عین ذات کے تصور میں مشغول رہے کہ یہ صوفی کی آخری منزل ہے۔ اَلصُّوْفِيُّ هُوَ اللهُ اس مقام کی رسائی میں مشائخ نے کہا ہے کہ سالک اللہ کی تمام صفات کا جامع ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ظہور کے وصف سے اور غیب ہویت باطن اس کے بطون اور سر سے ناخن پانکھ آنکھ کی پتلی ہو جاتا ہے اور دیدہ بصیرت اس کا لباس ہو جاتا ہے۔ اَيْنَمَا

تَوَلَّوْا فِشْرًا وَجْهَ اللَّهِ اس کا مرکز توجہ ہو جاتا ہے۔ جب سالک بصارت کا پردہ اپنے ممکن وجود کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے تو حُسنِ فاضلِ ہر حُسن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اخفی ہو کر اس کا عین عین ہو جاتا ہے اور جب عین سے تنزل کرتا ہے تو عین عیاں ہو جاتا ہے۔ تجلی باسط رو نما ہوتی ہے۔ وہی ذات لباس عین صفات دوسرے حُسن کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے اور نام بھی دوسرا پڑ جاتا ہے۔ ہزار صد ہزار نمائش کا منتظر ہوتا ہے جب ساز ایک ہو اور سازندہ ہر پردہ میں دوسرا ہو۔ جب سالک اس مرتبہ پر پہنچتا ہے اس کے عالم دور کا نقطہ سیر دائرہ بن جاتا ہے اور نقطہ مرکز پر کار پر کار یعنی کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے۔ نقطہ اسقاط عالم ہستی بیان باطن ہے **هُوَ الْوَالِدُ هُوَ الْاٰخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ** ہے کہ اپنی طرف سے جاتا ہے اور اپنی ہی طرف جاتا ہے۔ جب کھولتا ہے تو خود جاتا ہے اور خود سے جاتا ہے **شَهِدَ اللّٰهُ اَنْتَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** اس کو گواہ بنانا ہے۔ جس میں اس شغل کی اہمیت ہو اور اس کی استعداد اس کو حاصل ہو جائے تو اس کا ایک حال تعین میں آئے اور دوسرا لا میں ہو۔ خود ان دونوں تعینوں کے درمیان تعین میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ اس شرک اثر نہ رہے۔ کبھی ایسا حاضر ہو کہ ہر آنکھ اسی کو دیکھے۔ اس مقام میں معلومات سے بچے۔ جب خود کو دیکھے تو حضور ہی کے بجائے بے حضور ہی ہو جائے گی۔ اور جب شہود میں داخل ہو گا تو بے شہود ہو جائے گا۔ صرف اتنا حاضر ہو کہ شعور علمی سے ٹکراؤ نہ ہو کہ **الْعِلْمُ مَجَابُ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ** اسی موقع پر کہا ہے کیونکہ بے معلوم علم نہیں ہوتا اور خواہش ہوتی ہے کہ اُسے یاد کرنے کے لیے آواز ہو۔ یہ بات اس لیے فضول ہے کہ اس

منزل میں نہ اپنی خبر رہتی ہے نہ خدا پر نظر جاتی ہے ہو ہو ہو یہ مقام سادگی کا ہے۔ اس مقام پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا سادگی میں آزادی ہے مواخذہ و عتاب نہیں ہے جو سالک اس مقام کا محرم راز ہو گیا اُس نے کائنات سے برتر قدم رکھا تو تمام دولتوں کا دیدہ بھرت اس درویش کا قدم ہو جاتا ہے چنانچہ کہتا ہے قَدِمِي عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ كُلِّ اَوْلِيَاٍ زَمَانِي اِس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی معلوم کرے ع ع

## اٹھواں درجہ بیان اسمائے الہی کیانی میں

اور ان کا علم اور ان کے ظہور و بطون کی ماہیت؛ جب سالک سات درجوں سے گذر کر اس میں آئے تو یہاں کے حالات کا مشاہدہ و معاہدہ و مکاشفہ سے اور حضور و قبض و بسط و تلویح و تمکین یہ سیر الی اللہ ومع اللہ و فی اللہ کی منزلیں طے کر کے عارف بنفسہ اور عارف باللہ ہو جاتا صَادًا لِعَبْدٍ فَا نِيًّا وَ بِالْحَقِّ بَاقِيًّا اور فنا سے بقا ملتی ہے جب سالک کو یہ سعادت حاصل ہو جائے باوجودیکہ اس کا جسم موجود ہے اور ذکر و فکر و عمل میں مشغول ہے پھر بھی کبھی عبودیت محض الوہیت ہو جاتی ہے۔ جس قدر ممکن ہو اپنی نگہبانی کرے۔ اگر اپنے وجود کی کوئی علامت نظر نہ آئے تو اس معنی پر نگاہ رکھے الرَّوْحُ فِي الْبَدَنِ كَالذُّهْنِ فِي اللَّبَنِ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ بِمَا سَائِدُ الْجَسَدِ وَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتْ بِمَا سَائِدُ الْجَسَدِ اور یہ بات نظر میں رکھے الحاصل

وہ بزرگ فرماتے ہیں اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ اَعْلُوْا الْاَبْدَانِ وَ عِلْمُ الْاَوْدِيَانِ  
اس کا قرب چھ چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا یہ بات  
حدیث و نص سے معلوم ہوئی۔ جس نے عمل کیا اس کو معائنہ باطن حاصل ہو  
گیا چنانچہ بیان کیا گیا ہے حالات باطن میں اور علم ابدان میں ماہیت و  
حقیقت و چیزوں سے ظاہر ہوئی ایک تو مزاج حقائق کے جسم کی نگرانی  
جیسا کہ اطباء نے کہا ہے۔ دوسری ماہیت خاص بطور ابدان انسانی کہ  
معرفت نے اسمائے الہی سے اسمائے کیانی کی صورتوں میں کس سیرت  
سے صورت پائی۔ اس کو سمجھے بغیر موجد محقق نہیں ہوتا صرف موجد ہی ہوتا  
ہے تحقیق کی الجھن میں مبتلا ہوئے بغیر ایک ہی حال پر قرار حاصل کرے  
اور ماہیت ازل وابد کو دریافت نہ کرے جب ہر درجہ سے غافل ہو  
جائے گا تو ظاہر و باطن بھی ایک ہی نظر آئیں گے۔ محقق آنکھ کا مرتبہ آنکھ  
سے معلوم کرتا ہے اور پاؤں کا وہی مرتبہ سمجھتا ہے کہ جو پاؤں کا ہونا  
چاہیے۔ جب وہ شخص کا تصور کرتا ہے تو ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہ بات  
سائیکوں کے لیے نہایت ضروری ہے چنانچہ ابتدا و انتہا کا سلسلہ ازل  
سے ابد تک ہے اور اس کا ظہور مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا  
ہے۔ وجوب و امکان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔  
لیکن وجوب عالم غیب اور امکان عالم شہادت ہے۔ تمام متکلمین و  
صوفیا ایک ساتھ شہادت سے گذر کر دریائے وجوب میں جا پہنچے۔ قیام  
بنفسہ دیکھا تو کلام نفسی کو سمجھا۔ متکلمین نے قیام تو کیا لیکن اکثر اس سے واقف  
نہیں کہ دریا کی تہہ میں کیا ہے پس اسی چون و چرا، غور و فکر میں مبتلا  
ہو کر آخر عاجز آگئے اور تہہ تک رسائی نہ ہو سکی مگر صوفیہ نے اس

پر قناعت نہ کی اور عنان توجہ کو آگے بڑھا کر وار الو احدیت میں پہنچ گئے  
 وحدت کو دیکھ کر اندر آئے تو حصول کار کو دیکھا اور متانہ وار احدیت کی  
 طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہاں سے واپسی کا خیال ترک کر کے لباس  
 وراؤ قبضن ولایت پہن لیا اَلْوَرَاءُ فِي لِبْسِ الْاِحْدِيَّةِ مَلْبُوسٌ  
 بلوس احدیت ہو گئے بشرط قابلیت خود بخود۔ دریا ئے معرفت کی  
 موجوں کی مدد سے اپنی قابلیت تک پہنچ گئے۔ وجود واجب و ممکن  
 اپنی اپنی جگہ ہے جہاں سے یہ دونوں نہیں نکلتے۔ بیت  
 ممکن زینگہائے عدم ناکشیدہ رخت  
 واجب بجلوہ گاہ عیاں ناہنوادہ گام

روح مثال و صورت مثال ایک ساتھ دونوں بحضرت وجوب اسماء  
 کلی الہی موجود ہیں عالم امر سے کہ عبارت کن سے کہ اٹھائیس اسمائے الہی  
 ہیں اور فیکون اشارہ اسمائے کوئی ہے۔ انہوں نے بھی اٹھائیس صورتیں  
 اختیار کی ہیں۔ اسمائے الہی اس تفصیل سے اَلرَّفِيعُ الْجَامِعُ اللَّطِيفُ  
 الْقَوِيُّ الْمُدَبِّرُ الرَّازِقُ الْعَزِيزُ الْمُعِيتُ الْمُحِيُّ الْحَيُّ الْقَابِضُ  
 الْمُبِينُ الْمُحْصِي الْمُصَوِّرُ النُّورُ الْقَاهِرُ الْعَلِيمُ الرَّبُّ الْمُقْتَدِرُ  
 الْمَعْنِيُّ الشَّكُورُ الْمُحِيطُ الْحَكِيمُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْاَوْحَدُ  
 الْبَاعِثُ الْبَدِيعُ اور انسانوں کو ان اسماء سے متصف ہونا چاہیے  
 تاکہ تخلقوا باخلاق اللہ سے اتصاف حاصل ہو۔ لیکن حضرت امکان اسمائے  
 الہی کوئی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی غیب ہیں اور اٹھائیس ہیں اس تفصیل  
 سے عقل کل نفس کل طبیعت کل جوہر ہبیا و شکل کل جسم کل عرش کرسی فلک  
 البروج فلک المنازل فلک زحل فلک مشتری فلک مریخ فلک شمس

فلک زہرہ فلک عطارد و فلک قمر کرہ آتش کرہ ہوا کرہ آب کرہ خاک  
مرتبہ جماد مرتبہ نبات مرتبہ حیوانات مرتبہ ملک مرتبہ جن مرتبہ انسان مرتبہ  
جامع ہے اور اسماء الہی کلی کو معاد اور اسماء کونی کو مبداء کہتے ہیں۔ اور ان دو  
حضرتین میں سے ہر ایک تا مرتبہ ذات اٹھائیس مراتب ہیں۔ سالک کی  
آمد اسماء کونی سے ہوتی ہے کہ وہ اس کا مبداء ہے اور واپسی اسماء کلی  
الہی کے راستہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس کا معاد ہے۔ حقیقت انسانی ان  
دو نوں کے درمیان برزخ ہے کہ مَدَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ  
لَا يَبْغِيَانِ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اس راہ میں کسی کو اپنا ہادی و مرشد  
بنائے کہ سالک کو بے مرشد راہ نہیں ملتی اور بے معرفت آگاہ نہیں ہوتا۔  
جو بغیر مرشد اس منزل میں قدم رکھے گا سائل ہو جائے گا الحاصل سالک  
کو سوائے عالم باطنی کے قرار نہیں حاصل ہوتا جب تک وہ اسماء الہی کا ورد  
نہ کرے۔ نکتہ: جاننا چاہئے کہ انسان اجمال عالم ہے اور عالم تفصیل۔  
جب انسان اپنے قبض میں مقید ہوتا ہے تو مقید بجز وجود ہوتا ہے مثلاً  
پانی پر کائی جم جاتی ہے تو پانی اس سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور جب  
اس پر مٹی کا ڈھیلا آکر گرے تو کچھ دیر کے لیے کائی بہٹ جاتی ہے پھر  
پانی کے منہ کو چھپا دیتی ہے کیونکہ تمام حوض کو کائی نے گھیر لیا ہے۔ اسی  
طرح جب ذکر و فکر سے انسان کو غفلت پیدا ہوتی ہے تو نور باطن پوشیدہ  
ہو جاتا ہے اور یکسوئی باقی نہیں رہتی۔ جب سخن کمال تمام عالم کو اپنے  
اعاطہ میں لیتا ہے اور زنگار کدورت ہر طرف سے ہر طرف کر دیتا ہے۔  
تو ماہیت ہو جاتا ہے اور تمام عالم جبروت کے ہر چہرہ سے وہ پر وہ  
ہٹا دیتا ہے بشرطیکہ اسماء الہی سے مدد لے اور ظہور ہر اسم میں ظہور مرتبہ



شہادت ہے جس کا نام تنزل ہے اسی طرح دعوت کرے تاکہ آخری مرتبہ پہنچے۔ اور پردے ڈالنے والی تاریکیاں ہر طرف سے فنا ہو جائیں یہاں تک کہ ایک انسان تمام ماہیت ہو جائے جب ایک انسان ہو گیا تو کوئی چیز ایسی نہ رہی جو انسان کو چھپا دے۔ تمام افراد ایک انسان ہے کل و جز وہی ہو جاتا ہے وہی رہتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ اس کا بیان ذکر کے تذکرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ ہر سالک کو دعوت لازم ہے۔ بعض مشائخ یہ نہیں جانتے کہ مریدوں کو ایک عنوان سے اس راہ نہیں چلانا چاہیے۔ ظاہری و باطنی خبریں ان کو نہیں بتاتے کہ ان کا حال کس مرتبہ پر پہنچا ہے اور کس منزل تک پہنچانا چاہیے۔ پیر خود غافل ہیں جو کچھ انہیں حاصل ہوا اس سے آگے نہ بڑھے اسی میں رہ گئے۔ یہ نہیں کہتے کہ مریدوں کو اس دروازہ سے کھینچ کر اس دروازہ سے باہر نکالیں تاکہ اس میں دربان نہ ٹھہر سکے۔

جاننے والا اور دیکھنے والا وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ چند الفاظ سے صورت معاملات کی جانب اشارہ کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ اکثر اسمائے جبروتی بیان کرتا ہوں جب مبتدی کو دوران ریاضت جو کچھ ظاہر ہو وہ وصف نفسانی رونما ہوگا۔ عناصر و طبائع میں سے جو چیز وجود میں آئی ہے وہ مکمل طور سے صورت نفس میں رونما ہوگی خواہ سفلی ہو یا علوی۔ جب سالک اس مقام سے گذر گیا تو روح صورت مثالی میں ظاہر ہوگی۔ جتنا آگے قدم بڑھانا چاہے گا اتنا ہی پیچھے ہٹا ہوا دیکھے گا۔

ہدایت و نہایت نفس کو نہ سمجھ سکے گا۔ نفس چیز ہے بے چیز نہیں بلکہ ہمہ چیز ہے۔ جب اس مرتبہ پر فائز ہوگا تو سالک متوسط ہو جائے گا پھر وہی نفس مشاہدہ و معائنہ کی صورت میں آتا ہے اور عالم غیب و شہادت

اس کا حسن ہو جاتا ہے۔ کبھی بالوجود، کبھی بالامکان اور کبھی ہمہ مکان وہی ہوتا ہے۔ بے نشان اس کا نشان ہے۔ سالک منہتی آخر میں سمجھے گا کہ نفس اب تدارب روحی ہے اور انتہا رب لا رباب جب یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو منزل کی تمیز رہے گی اور ہر چیز کو اسی چیز سے پہنچانے کا اس میں غلطی نہ کرے گا۔ نکتہ دیگر: کار و بار عالم کے جاننے کے سلسلہ میں جب مبتدی کچھ واقعات عالم میں سے دیکھتا ہے تو بعض ان میں سے عین ہوتے ہیں اور بعض عکس لیکن ہفتہ و ماہ گزرنے نہیں پاتا کہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب متوسط خیر و شر دیکھتا ہے تو ماہ و سال سے بھی زیادہ گزرتا ہے اور عین یا اس کی بعینہ تعبیر رونما ہوتی ہے۔ جب منہتی دیکھتا ہے تو بہت سے سال و قرن گزر جاتے ہیں اور آخر ظہور ہوتا ہے کیونکہ جب استعداد قرب حاصل ہے تو غایت قرب سے اور دیکھنے کے خلاف کوئی بات رونما نہ ہوگی واقع حال ہوگی اگرچہ ان کے دیکھنے میں ویہ ہوتی ہے۔ ان کا دیکھنا دلیل و محبت متین ہے۔ ایک درویش نے بارگاہ خداوندی میں اپنے مقصد ولی کو عرض کیا پدوہ غیب سے بشارت ملی کہ اس طرف توجہ سے باز رہے یہاں تک کہ زمان ظہور میں دوبارہ اس کو عرض کرنا یہ معاملہ معائنہ باطن کا ہے۔ بجلی ذات جلال معائنہ و جمال معاملہ ہوتا ہے اور نتیجہ نہیں نکلتا یہ حکم صفات سبلی رکھتا ہے اور اسی سے تمام کو قیاس کرے دوسرے یہ کہ خیال و وہم کی بات معنی سے خالی ہوتی ہے اور اور وجود میں نہیں آتی۔ تبدیلی مزاج میں تین چیزوں سے پریشاں نہیں رہتا نتیجہ بھی صاف نہیں نکلتا کہ مقام بساطت میں باہمی پریشانی ہے۔ سو چیزیں بے نشان نظر آتی ہیں دوسرے یہ کہ جب لوگ آرام کرتے

ہیں تو ہر ایک کی روح عالم جبروت کی طرف متوجہ ہوتی ہے چنانچہ پانی  
 وریا کی جانب رُخ کرتا ہے اور ہمیشہ بقدر قابلیت بہتا رہتا ہے۔ دیو اور  
 جن و ملک خبریں دیتے ہیں۔ سفلی ہے تو دیوتا ہے، عالم علوی ہے  
 تو جن کہتا ہے اور رحمانی ہے تو فرشتہ بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی  
 اپنی حیثیت سے خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر نڈرت بھی پیدا ہوتی ہے۔  
 توجہ دیتے وقت جو معاملہ رونما ہوتا ہے وہی کھل کر سامنے آتا ہے اگرچہ  
 تاخیر ہو جاتی ہے مگر تعطیل نہیں ہوتی آیت کریمہ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي  
 عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اٰجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْنِي  
 وَ لِيُؤْمِنُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ اس میں تصدیق دین و ایمان ہے  
 دیگر جب کشف حقائق کے یٹے دعوت کرنا چاہے اور ان کے مبداء  
 و معاد کی ماہیت معلوم کرنا چاہے تو پہلے چند روز واجبی تزکیہ نفس کرے  
 اور ماکولات جسمانی و روغن حیوانی اور نمک معدنی و سمندری اپنے  
 چاروں طرف جمع نہ کرے ورنہ نمک معدنی و اکل حلال و صدق مقال  
 اور صائم الدہر، قائم الیل، قلیل الطعام اور قلۃ الکلام کے ساتھ صاف  
 اور خالی و تاریک جگہ میں جسم و لباس و جلے نماز کی پاکیزگی کے ساتھ  
 مُصَلًّا پچھائے اور بہت دعوت پر منگل اور بدھ کو روزہ رکھے اور جمعرات  
 کو بوقت صبح صادق غسل کرے اور بوقت اشراق دو گانہ شکر الوضو  
 ادا کرے پھر دو رکعت نفل بروح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم  
 پھر ارواح چہار یار و عشر مبشرہ کو دو نفلوں کا ثواب پہنچائے اس کے  
 بعد حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین بہر ووی قدس سرہ کی روح  
 کی طرف کرے پھر حضرت سلطان الموحدین شیخ ظہور الحق و الشرع والدین

کی روح کی طرف توجہ کرے اس کے بعد جس روح درویش کی طرف توجہ کرے تو ہر ایک کے لیے دو گناہ ادا کرے اور ہر ایک کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے اس کے بعد توجہ تمام رو قبیلہ ہو کر ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے بعدہ بہ نیت نصاب چار ہزار چار سو چالیس مرتبہ اور بہ نیت زکوٰۃ سات ہزار مرتبہ بہ نیت عشر چار ہزار مرتبہ اور بہ نیت نفل نو سو مرتبہ اور بہ نیت دُور مَدُور آٹھ ہزار مرتبہ اور بہ نیت بذل بارہ ہزار مرتبہ اس کے بعد بہ نیت ختم ابجدی اعداد اسم ذات و نام خود و نام حضرت رسالت مآب کو جمع کر کے پڑھے کہ یہ جامع جمیع مراتب ہے۔ آخر کار کشف الہامی ہے۔ جب ان شرائط سے گذر جائے تو نان گرم یا شیرینی بہم کر دہ یعنی ملیدہ بنا کر چند فقروں کو کھلائے اور بے ضرورت چند جانوروں کو خرید کر آزاد کر دے اور کشف کے لیے جس رتبہ کو چاہے حاصل کرے گا اور دعوت کرے بقاعدہ خُذْ حَرْفًا قُلْ اَلْفَا اَشْمَاُ دَعْوَتِ مِیْن مَلَائِكَةِ وَ حَقِیْقَتِ اَنْ مَرْتَبَةٌ جَلَّةٌ سَالِكٌ پَر مَكْتُوْفٌ ہُو جَائِسٌ كِی بَمْنَه وَ كَرْمَه اَسْمَاُ مَذْكُورِ كِی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یَا رَفِیْعُ تَرَفَعْتَ بِالرَّفِیْعِ وَ الرَّفِیْعُ فِی رَفِیْعِ رَفِیْعِكَ یَا رَفِیْعُ یَا جَامِعُ جَمَعْتَ بِالْجَمْعِ وَ الْجَمْعُ فِی جَمْعِ جَمْعِكَ یَا جَامِعُ یَا طَیِّفُ تَلَطَّفْتَ بِاللُّطْفِ وَ اللُّطْفُ فِی لُطْفِ لُطْفِكَ یَا طَیِّفُ یَا قَوِّیْ تَقَوَّيْتَ بِالْقُوَّةِ وَ الْقُوَّةُ فِی قُوَّةِ قُوَّتِكَ یَا قَوِّیْ یَا مُدِلُّ تَذَلَّلْتَ بِالذَّلَّةِ وَ الذَّلَّةُ فِی ذِلَّةِ ذَلَّتِكَ یَا مُدِلُّ یَا رَزَاقُ تَرَزَقْتَ بِالرِّزْقِ وَ الرِّزْقُ فِی رِزْقِ رِزْقِكَ یَا رَزَاقُ یَا عَزِيزُ تَعَزَّزْتَ بِالْعِزَّةِ وَ الْعِزَّةُ فِی عِزَّتِكَ یَا عَزِيزُ یَا مُمِيتُ تَمِيتُ بِالْاِمَاتَةِ وَ الْاِمَاتَةُ فِی اِمَاتَةِ اِمَاتَتِكَ یَا حَیُّ تَحْيِيْتُ بِالْاَحْيَاءِ وَ الْاَحْيَاءُ

فِي أَحْيَارِ حَيَاتِكَ يَا حَيُّ يَا مُجِي تَحْيَيْتَ بِالْحَيَوَةِ وَالْحَيَوَةُ فِي حَيَوَةِ حَيَاتِكَ  
 يَا مُجِي يَا قَابِضُ تَقَبَّضْتَ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ فِي قَبْضِ قَبْضِكَ يَا  
 قَابِضُ يَا مُبِينُ تَبَيَّنْتَ بِالْإِبَانَةِ وَالْإِبَانَةُ فِي إِبَانَةِ إِبَانَتِكَ  
 يَا مُبِينُ يَا مُحْصِي تَحْصَيْتَ بِالْأَحْصَاءِ وَالْأَحْصَاءُ فِي أَحْصَاءِ أَحْصَاءِكَ  
 يَا مُحْصِي يَا مُصَوِّرُ تَصَوَّرْتَ بِالتَّصْوِيرِ وَالتَّصْوِيرُ فِي تَصْوِيرِ تَصْوِيرِكَ يَا مُصَوِّرُ  
 يَا نُورُ تَنَوَّرْتَ بِالنُّورِ وَالتَّنَوُّرُ فِي نُورِ نُورِكَ يَا قَاهِرُ  
 تَقَهَّرْتَ بِالقَهْرِ وَالقَهْرُ فِي قَهْرِ قَهْرِكَ يَا قَاهِرُ يَا عَلِيمُ تَعَلَّمْتَ بِالعِلْمِ  
 وَالعِلْمُ فِي عِلْمِ عِلْمِكَ يَا عَلِيمُ يَا رَبُّ تَرَبَّيْتُ بِالرَّبُّوبِيَّةِ وَالرَّبُّوبِيَّةُ  
 فِي رَبُّوبِيَّةِ رَبُّوبِيَّتِكَ يَا رَبُّ يَا مُتَّقِدِرُ تَقَدَّرْتَ بِالتَّقْدِيرِ وَالتَّقْدِيرُ  
 فِي تَقْدِيرِ تَقْدِيرِكَ يَا مُتَّقِدِرُ يَا غَنِي تَغَنَيْتَ بِالعِنَاءِ وَالعِنَاءُ فِي  
 عِنَاءِ عِنَائِكَ يَا غَنِي يَا شَكُورُ تَشَكَّرْتَ بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرُ فِي  
 شُكْرِ شُكْرِكَ يَا شَكُورُ يَا مُحِيطُ تَحَوَّطْتَ بِالإِحَاطَةِ وَالإِحَاطَةُ  
 فِي إِحَاطَةِ إِحَاطَتِكَ يَا مُحِيطُ يَا حَكِيمُ تَحَكَّمْتَ بِالحِكْمَةِ وَالحِكْمَةُ فِي  
 حِكْمَةِ حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمُ يَا ظَاهِرُ تَظَهَّرْتَ بِالظُّهُورِ وَالظُّهُورُ فِي  
 ظُهُورِ ظُهُورِكَ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ تَبَطَّنْتَ بِالبُطُونِ وَالبُطُونُ  
 فِي بَطُونِ بَطُونِكَ يَا بَاطِنُ يَا آخِرُ تَأَخَّرْتَ بِالأَخِرَةِ وَالأَخِرَةُ  
 فِي آخِرَةِ آخِرَتِكَ يَا آخِرُ يَا بَاعِثُ تَبَعَّثْتَ بِالبَعْثِ وَالبَعْثُ فِي  
 بَعْثِ بَعْثِكَ يَا بَاعِثُ يَا بَدِيعُ تَبَدَّعْتَ بِالبَدَائِعِ وَالبَدَائِعُ فِي بَدَائِعِ  
 بَدَائِعِكَ يَا بَدِيعُ وَبِغَيْرِ اسْمِ فِقْرَتِكَ بِطَرِيقِ مَكاشِفَةِ اسْمِ عَمَلِ كَوْحِاصِلِ كَيْفَا  
 اورد ہر منزل میں اس کا ظہور ہوا۔ کل چھ درجے ہیں۔ ہر درجہ متضمن سچند  
 ظہور ہے ان کی مکمل تفصیل کلید مخازن میں مذکور ہے۔ قرآن مجید فرقان

حمید سے بھی چھ درجے مفہوم ہوتے ہیں کہ چھ روز سے تعبیر کیا ہے کقولہ تعالیٰ  
 اِنَّ رَبَّكَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ  
 اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ رَمَزًا بِهَيْتَ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پردہ عزت  
 و جلال میں کامل مہیا ہے اور پردہ جمال میں حسن جمال کا ظہور ہے۔ سترًا  
 و عِلَاتِيَّةً کمال جمال جامع چار وصف ہے۔ اور مراتب میں نورًا و عشقًا  
 و روحًا و عقلاً ان چار میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہے اس لیے ان چار  
 سے آٹھ اسمائے الہی کلی کا ظہور ہوا اور بصورت اسمائے کوئی وجود و نما  
 ہوئے اس تفصیل سے يَاسَّارُ يَاقُوْرُ يَاقَهَّارُ يَاقُدُّوْسُ يَاسَحِيٌّ يَابَاعِثُ  
 يَابَدِيْعٌ يَاجَامِعٌ اور اٹھائیس اسمائے کوئی کہ ان آٹھ اسمائے الہی سے ظاہر  
 ہوئے اس تفصیل کے ساتھ عقل کل نفس کل طبیعت کل جو ہر جہا شکل کل جسم  
 شش کوئی تجلی اسم تار سے ظاہر ہوا عرش و کرسی و فلک البروج و فلک  
 المنازل و فلک زحل و فلک مشتری و فلک مریخ و فلک شمس و فلک زہرہ  
 و فلک عطارد و فلک قمر مرتبہ ملک یہ بارہ اسم تجلی اسم نور سے ہیں آیہ کریمہ  
 يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ اِس کا مشعر ہے اور کرہ نار  
 و مرتبہ جن تجلی اسم قہار سے ہے۔ کرہ ہوا تجلی اسم قدوس سے ہے  
 اور کرہ آب تجلی اسم حتی سے۔ کرہ خاک تجلی اسم باعث سے ہے موالید  
 نلثہ پر تجلی اسم بدیع ہے۔ مرتبہ انسان اور مرتبہ جامع پر تجلی اسم جامع ہے  
 جب سالک اٹھائیس مراتب کے کشف کا خواہاں ہو تو ان آٹھ اسماء کی  
 بطریق مذکور دعوت کرے تو تمام مبداء و معاد اس پر منکشف ہو جائے  
 ظہور مراتب کے لیے ایک اسم کلی ہوتا ہے۔ دیگر جو چیزیں اس رتبہ سے  
 ظاہر ہوتی ہیں ان کے ہر جنز پر ایک اسم کا ظہور ہے اور ظہور اسم کلی جلال

عظمت و جمال کبریا سے ہے۔ دوسرے اسماء کا ظہور اسی اسم کلی سے ہے اور ہر حقیقت حسن پر اسم افعالی سے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یقین کامل۔ دیگر یہ جب درویش سات سال کا تھا اس وقت اس میں آیا اور جب نو سال کا ہوا تو معرفت حاصل ہو گئی اور پندرہ سال کا ہو گیا تو دوسروں کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور بائیس سال کی عمر میں معراج ہو گئی اور پچیس سال کا ہو کر طالبوں کو اپنی مثل بنانے لگا اور سب تینیس سال کا ہوا تو مزاج خاص و عام ہو گیا اور مقتدا اور امام بننے کی صورت پیدا ہوئی۔ جب چالیس سال کا ہوا تو بادشاہوں سے مخالفت کی بنا پر سفر اختیار کیا اور ولایت گجرات میں آ گیا۔ یہ اور اقلعہ جانپانیر میں نہایت اختصار کے ساتھ لکھے جو جامع جمیع فوائد ہیں اور سفر و حضر میں یکساں کام آنے والے ہیں یہ کتاب ایسی مختصر و جامع ہے کہ اس کے علاوہ دوسری کتاب کی ضرورت نہ ہوگی اس کتاب کے لکھتے وقت اس فقیر کی عمر تینتالیس سال کی تھی اور اس فقیر کی پیدائش سات رجب بروز جمعہ نماز جمعہ کے وقت ۹۳۹ھ میں ہوئی اور یہ کتاب ۹۴۹ھ میں لکھی گئی۔ اور جو واقعات عالم و حالات باطن اس کے علاوہ تھے انہیں طوالت کے باعث تحریر نہیں کیا

۹  
**تصحیح فہمات تعلیمہ مشنیت و شناخت  
 نول درویش خلا و اراد اور ہم آداب حیات و شناخت  
 پیر و مرید اور مسائل طریقت ملت کے بیان میں ہے**

اور اس میں تصحیح سلاسل ظاہری و باطنی اور بیان معراج بھی ہے۔ جب

سالک آٹھ درجوں سے گذر کر ان مراتب تک پہنچتا ہے تو اس کو اپنی اتہما  
ابتدا معلوم ہوگی اور طریقہ امامت و اقتدا صحیح ہو جائے گا اور ارشاد بیعت  
و خلافت و سند خلافت و سند بیعت و سلسلہ بھی درست رہے گا۔ مرید  
ہونے اور مرید کرنے کے آداب، حقیقت بیعت، انتخاب شیخ کے اصول  
اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے کے اسباب کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔  
تاکہ سالک کو واقفیت حاصل ہو سکے۔

واضح ہو کہ پہلے حق تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر ولایت کا ظہور ہوا  
اور ہر ولی اس لباس ولایت میں ملبوس ہو کر عالم وجود میں آیا وَاَيَّدٰهُ  
بِرُوْحِ الْقُدُسِ عَالَمِ اَوْرَاحٍ مِّنْ اَوْسَاطِ الْعَالَمِ غَيْبِ اَرْوَاحِ مِثَالِي جِسْمَانِي شَكْلِ  
و صورت اختیار کر کے خاص فیض نبوت حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم نے خبر دی كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَّ مَبِيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اَوْ اَسْ  
فِيضِ مَخْفِي كِي تَجْلِيَاتِ كُو عِيَا كِر وِيَا وَاَعْلَمَ اَدَّ وَا الْاَسْمَاءَ كَلْفَا كَا ظُهْر  
هَوَا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً كَا تَقَرَّرَ كَر كِي عَدَمٍ سِي وِجُوْدٍ هَسِي  
عَطَا كِيَا وَا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اَدَّ هَرَا سِ كِي شَانِ مِي وَا رِ وِ هُوَا اَوْ رُوْحَانِيَّة  
لِجُوْرَتِ الْاِنْسَانِيَّةِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيُوِيُوَا سِ مِي وِ وِ بِيْعَتِ كِي . وِلَايَةِ  
مَجْرُوْدِهِ كُو بَزَارِ صَدِّ بَزَارِ صُوْرَتِي عَطَا كِي مِي . عَالَمِ غَيْبِ وِ شَهَادَتِ نَمَايَا مِ هُوْنِي  
لُوَا زِمَةُ بَا طِنِ جُو بِي تَهَا بَفِيضِ الْاَوَالَارِ وَا حِ تَامِ اَرْوَاحِ اَسِ كِي حُصُوْلِ سِي  
مَشْرُوْفِ هُوْنِي مِي اَوْ مَجْتَمِعِ هُوْنِي كَا اِنْتِظَارِ كَر نِي لِكِي تُوَا سِي رُوْحِ الْاَرِ وَا حِ  
نِي سَبِّ سِي مِي لِبَا سِ جِسْمَانِي پِهْنَا اَوْ اِيُوَا لَا جِسْمَا وَا نَامِ پَا يَارِ وَا حِ مَجْتَمِعِ  
هُو كِي اَرْوَاحِنَا اَجْسَادِنَا اَجْسَادِنَا اَرْوَاحِنَا لَاتِمِيْزِيْهَا بَعْدِهِ . خَالِقِ كَانُتَاتِ نِي  
تَامِ مَخْلُوْقِ كُو خَلَعَتِ جِسْمَانِي سِي سِرْفَرَا زِي كِيَا . كُوْنِ وَا مَكَانِ اَرْوَاسَتِهِ هُو كِي



كَانَتَا دَتَقًا فَفَتَقْتَهُمَا وَوَنُونَ شَاخِلِينَ ظَاهِرًا هَوَيْتُ وَأُورَمَكُ وَمَلَكُوتُ كَانَامُ  
 پڑا۔ فالین و مفیض بن گئے۔ غیب و شہادت نے آرام پایا۔ و جو ب و  
 امکان آراستہ ہوئے۔ حضرت و جو ب محض ولایت ہے اور امکان ارتسام  
 فیض ولایت۔ اگر لباس شہادت میں معرفت حاصل ہو جائے تو عارف  
 دریائے محیط میں خود کو پہچان لے چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

بیت

مردمی باید کہ باشد شہ شناس

تا بہ بند شاہ را در ہر لباس

اگر نہ پہچانے تو محروم رہے اور اس کی پیدائش بے سود رہے اور محبوبیت  
 کے پردوں میں ابدالاً باقی رہے۔ برائے تعلیم اللہ خلق۔ حق تعالیٰ کے جلوے  
 کہاں سے کہاں تک عیاں ہوئے۔ پھر کیا فرمایا انا احمد بلا مہم برائے ہدایت  
 خلق لباس بشریت پہنا اور شیوہ رسالت اختیار کر کے ہر زمانے میں آیا۔  
 مروہی کی خبر دی، ماہیت ذات و صفات خلق پر عیاں کی اور فیض باطن  
 اس کا ایسا مفیض ہوا کہ ہر طبقہ اور ہر قوم میں ہزاروں بنی پیدا فرمائے اور  
 ہر بنی نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان کو اپنی اُمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ  
 ہر بنی کو کمند عشق سے اپنی جانب کھینچتا ہے اس کے بعد راہ سلوک دکھاتا  
 ہے۔ جس نے جس حال میں سقبت کی تو اس دور کے احکام آثار کو پایا  
 پس اُس پر نبوت صادق آئی۔ اس کا پہلا قدم جذبہ عشق الہی اور دوسرا  
 قدم سلوک کا ہوتا ہے جب تک اس کو عطیائے ولایت نہیں ملتیں مطاع  
 نبوت نہیں ہوتا اَلْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ کا اشارہ اسی خاص  
 ولایت کے ساتھ ہے اور مرتبہ نبوت کا حصول اسی ولایت خاص پر  
 موقوف ہے۔ جس دور میں نبوت رہی تو جسے حق تعالیٰ نے چاہا اسے

ولایت خاص سے سرفراز کر کے نبی بنا دیا کیونکہ خاتم النبیین پر وہ غیب لک ریب میں تھے۔ جہاں نبی آیا وہاں اس نے اپنی شریعت پر خود بھی عمل کیا اور اپنی امت سے بھی کرایا جیسے مجتہد اپنے اجتہاد پر چلتا ہے ایسے ہی انبیاء کو اپنی شریعت کے احکام جاری کرنے کا اختیار کلی ہوتا ہے۔ ان کے اور مجتہد کے درمیان صرف یہی فرق ہے کہ مجتہد کے اجتہاد میں احتمال خطا ہے اور نبی کا ہر حکم کمال صواب پر مبنی ہے کیونکہ خطا ان کی شایان شان نہیں ان سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ فیض ولایت سے ظہور میں آتا ہے اور بے ولایت نبوت نہیں ملتی۔ لیکن مجتہد جو کہتا ہے وہ لفظ کے معنی لعنت سے سمجھتا ہے اور نبی لفظ میں معنی پیدا کرتا ہے۔ پس یہ بڑا فرق ہے مجتہد اور نبی میں۔ بغیر نبوت کے ولی ہو جاتا ہے اور ولی بغیر ولایت کے نبی نہیں ہوتا۔ ایک رکن ولایت کے بغیر ولایت کا وجود نہیں ہوتا اسی طرح شریعت پر عمل کیسے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک حضرت رسالتاب کا ظہور نہیں ہوا تھا اس دور میں بھی اولیاء تھے ہمیں ان کا اور ان کے مراتب کا یقین کامل ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن و عبدالرحیم اور قطب و غوث و نقباء و سجا، ابدال دوانا و غیرہ تمام اولیاء خفیہ طریقہ سے موجود تھے اور ان کے کمالات ظاہر تھے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک روز حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولی کو کیسے پہچانا جائے حضور نے جواب میں حکایت عن اللہ فرمایا اولیائی تحت قبائی لایعرفہم غیری پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا اَلْوَلِيُّ يُعْرِفُ الْوَلِيَّ پھر حضرت

علی نے عرض کیا ان کے احوال کیا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 اَلَا اِنَّ اَدْلٰی اَعْرَ اللّٰہِ لَوْ خُوْتُ عَلَیْہِمْ وَاَوْھُو یَحْزَنُوْنَ اور ہمیشہ اپنے اوقات  
 عزت میں عزیز ہیں اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہیے اور کوئی نشانی  
 نہیں بتائی جاسکتی۔ اس کے بعد آنے والے دور میں اولیاء ظاہر ہو جائیں  
 گے۔ دیگر یہ بھی سنو کہ جب تک دور نبوت تھا۔ انبیاء آتے رہے اس کے  
 بعد جب خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم  
 میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی ذات گرامی سے ایوان نبوت کی تکمیل ہو گئی  
 اور قیامت تک کے لیے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد اب  
 کوئی اور نبی ہو کر نہیں آسکتا البتہ نائب رسول اور امتی ہونے کی حیثیت  
 سے علماء و اولیاء کی آمد کا سلسلہ برابر قیامت تک جاری رہے گا۔ شجرہ  
 متین کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ضَرَبَ اللّٰہُ مَثَلًا لِّکَلِمَةٍ  
 طَیْبَةٍ کَثِیْرَةً طَیْبَةً اَصْلٰہَا ثَابِتٌ وَفَرْعُہَا فِی السَّمٰوٰتِ تُوْفِیْتُ  
 اُكُلُہَا کُلٌّ حِیْنَ یَاذُنُ رَیْحًا وَّ یَضْرِبُ اللّٰہُ الْاَمْثَالَ لِنَاسٍ لِّعَلّٰہُمْ  
 یَتَذَكَّرُوْنَ شجرہ سے ذات رسول مراد ہے اور کلمہ طیب سے دین رسول مراد ہے  
 اور اصلها ثابت سے اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کی ذات کا شعور  
 و فرعها فی السماء اس کا ظہور علوی و سفلی ہے وہ ہر حسن میں ظاہر ہوا اور ہر حال  
 میں پر وہ غیب سے اُس نے فیض پہنچایا، ولایت کو اپنے رنگ میں رنگ  
 دیا اور خود ہی صورت و معنی میں رابطہ ہو گیا اور ہماری جانب پہلے اس نے  
 دائرہ انبیاء بنایا اور پھر آخر میں ہماری طرف دروازہ ولایت کھول دیا اور  
 عام و خاص کا اس سے گذر ہوا فیوض ربانی کے نہایت جامع اور عظیم ترین  
 خزانے ولایت مطلق و ولایت خاص کے ہیں جو شریعت کی حدود میں

ہیں۔ ہر خاص و عام کو ولایت سے فیض ہے مگر بے پردہ ظاہر نہیں ہوتا اسی لیے اُس پر شریعت کا پردہ ڈال دیا۔ معرفت کے دو دروازے ہیں۔ دروازہ ظاہر سے شریعت میں کمال حاصل ہوتا ہے اور دروازہ باطن سے کمال ولایت ملتا ہے۔ فیض بے پردہ ظاہر نہیں ہوتا اگر اس پر پردہ نہ ہو تو گرو و غبار کی طرح منتشر ہوتا رہتا ہے۔ ولایت کیا چیز ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے ظہور حاصل کر کے ظاہر و مظاہر ہو جائے۔ ولایت اکثر جہاں نمودار ہوتی ہے کتنوں کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ولایت و نبوت ایک قید میں مقید ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے جو جامع ہے تین چیزوں کا ولایت مطلق، ولایت خاص اور شریعت اعظم۔ جب تک یہ تینوں ایک نہیں ہوتیں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ جب ولایت مطلق میں جاتا ہے تو وہاں قید نہیں ہے حجت متین وہاں کہاں ہوگی اور جب شریعت میں مجبور رہتا ہے تو وہ ایک پوست ہے مغز نہیں بن سکتی لیکن مغز بی پوست نہیں ہوتا۔ سالک جب ولایت خاص کو اختیار کرنا چاہے تو وہ مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت خاص نے صورت اشخاص اختیار کی ہے اور اس کا لوازم وحدت ہے اس کا زینہ حضرت علی ہیں اور اس کے خاتم ولایت امام مہدی ہیں اور خاتم ولایت مطلق و شریعت مطلق حضرت مسیح ہیں پھر یہ بھی سنو کہ مسیحا چلا جائے تو بھی اس کا فیض اسی طرح جاری رہتا ہے اور اصل مدعا حاصل ہوتا ہے تقلید ولایت کی طرف سب کی توجہ ضروری ہے اور ولی کو شرف تین فعلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شریعت محمدیہ پر برابر عمل کرتا ہے اور اس کے احکام کو نہایت ادب سے قبول کرے تو اس سے اس کا ظاہر آراستہ ہو دوسرے یہ کہ ولایت خاص میں استحقاق

ظاہر کرے کہ یہ تعین و تجلی اول ہے جو دوسری امتوں کے مقابلہ میں زیادہ اولویت رکھتی ہے۔ تیسری ولایت مطلقہ کہ تقید وحدت میں ہے اور اسی سے پیدا ہو کر ظہور حاصل کرتی ہے۔ جس نے ان تینوں فیوض کے ساتھ تربیت حاصل کی وہ ضرور تکمیل کلی پا کر وارث مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے گا اور جامع شریعت و ولایت ہو جائے گا اور آنحضرت کے نقش قدم پر چلے گا۔ فیض ولایت مطلقہ، ولایت خاصہ بارگاہ رسالتیاب سے براہ راست حاصل ہوگا اور درمیان سے حجابات اٹھ جائیں گے کوئی پردہ نہ رہے گا۔ طالب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کے سپرد کرے کہ اس کے وسیلہ سے خود بھی مستحق ولایت ہو جائے اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي اُمَّتِهِ فرمایا ہے اور عَلَيَّ وَاُمَّتِي كَانِبِيَاءَ بَعْدِي اِسْرَائِيلَ کا ارشاد اس کی روشن دلیل ہے۔ اگر آدمی شریعت کے اتباع میں راسخ ہے اور طریقت سے بے خبر ہے تو کیا فائدہ۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ دینِ محض دریافت ولایت کا نام ہے۔ ہر مسلم و مسلمہ پر اس کی تعلیم فرض عین ہے تاکہ رشتہ ولایت سے خود کو وابستہ کر کے ظاہر کو شریعت سے آراستہ کرے اور باطن کو نور معرفت سے منور بنائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری و باطنی معاملات کے عظیم ترین اسرار شایان شان طریقہ سے بیان فرمایا دیئے اور اس سے خود عہدہ برآ ہو کر اب یہ ذمہ داریاں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح، رشد و ہدایت باطنی کا یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا اور قیامت تک مشائخ طریقت اس راہ پر گامزن رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں راہ راست

سے اور اُدھر بھٹکنے اور بہکنے سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی اسی راہ راست پر چلاتے رہیں گے سخن الاخر ون السابقون سالکان طریقت اس راہ میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ سند طریقت کو رفعت بخشی اور خلافت خلفائے راشدین کو عطا فرمائی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حکومت اسلامی کے پرچم کو لہرایا اور احکام شریعت کو سر بلند کیا لیکن آپ نے کسی کو باطن کی کوئی خبر نہ دی اور نہ کوئی علامت بتائی۔ دوسروں کو احکام ظاہر یعنی شریعت کے احکام کا پابند بنایا اور خود باطن میں مستغرق ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ مرودہ کو راستہ میں چلتا ہوا دیکھنے کا خواہشمند ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے مَن اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَيْتِ يَمِّشِي عُلَى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى اِبْنِ اَبِي قُحَافَةَ حضرت ابو بکر نے یاد حق میں اپنے ذات کو ایسا فنا کیا تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف بقا عطا ہوئی کہ حضور نے فرمایا لَوْ تَوَازَنَ اِيْمَانُ اَبِي بَكْرٍ مَعَ اِيْمَانِ اُمَّتِي لَوَجَّحَ اِلَى اَبِي بَكْرٍ کے ایمان کا تمام امت کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو آپ کا ایمان سب پر غالب رہے۔ آپ ولایت کے اس درجہ کمال پر فائز تھے کہ کوئی دوسرا ولی وہاں نہیں پہنچ سکتا لیکن سلسلہ طریقت کو جا ہی نہ کیا صرف ایک سلسلہ ولایت آپ سے ظہور میں آیا آپ کو ظاہری حکومت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت کم مہلت ملی لیکن پھر بھی باطن کی طرف متوجہ رہتے اور خلق سے روپوش رہتے تھے اس کے بعد خلافت عدالت حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے عدل و انصاف کی حکومت کی اور خود آپ نے جو باطنی نسبت اور فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا

اس کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا اس میں سے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ تکمیل مدارج کی منزل پر پہنچ کر ظاہر سے باطن کی طرف توجہ دی اور سب سے روپوشی اختیار کی اس کے بعد خلافت خلیفہ سوم ذوالنورین امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ملی آپ نے تمام قرآنی آیات کو مختلف حضرات سے مہیا کر کے یکجائی طور پر کتابی شکل میں جمع کر کے قرآن کو صحیح طور سے ترتیب دیا اس لیے آپ اس عظیم کارنامہ کی وجہ سے جامع القرآن ہو گئے کچھ عرصہ تک آپ نے حکومت کی اس کے بعد خوارج کا غلبہ ہوا اور بڑی بیدردی سے آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کر دیا اس کے بعد خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت و حکومت ولایت و شریعت و معرفت ملی۔ آپ نے ارجیاء و سلاسل کیا اور دلوں کو بمقدار مراتب زندہ کیا۔ اور پرچم محمدی کو سر بلند کیا، شریعت محمدی کو زینت بخشا اور ولایت محمدی کو جلادوی سلسلہ ولایت کو جاری کیا اور ماہیت ہدایت و نہایت خواص پر ظاہر کی اَنَا مَدِينَةُ الْعَالَمِ وَعَلِيٌّ بَأَهْمَا كِی حدیث آپ کے لیے وارد ہوئی راہ ولایت جاری ہوئی اور دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ دارالولی حضرت علی ولی خاص کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آپ نے ہر ولی کو ولایت مطلق و مقید سے باخبر و روشناس کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نے جب استعداد استقامت عطا کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ محبت قائم کر دیا۔ فیض حقیقت کو عام کر دیا اور طالبان ملت کو راہ ہدایت دکھائی ظہور و بطون حضرت رسالت و حضرت علی ایک قبیل سے ہیں۔ واضح ہو کہ ایک قابلیت آپ سے استعداد ظاہر کی ظہور میں آئی اور ایک نبوت کی دوسری ولایت یک جسم دو اسم اور ایک گوشت دو صورت

کی عیاش ہوئی۔ ایک ماہیت دیگر بیان۔ ایک راہ دیگر راہر ایک تخم سے دو شاخیں  
ظاہر ہوئیں گما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیقت انا و علی من  
نور و احد وہ دو شہسوار صحرا میں حاضر ہوئے گیند آگے ڈال کر گیند بکھینے  
لگے ان میں سے ایک وہیں رہا دوسرا اس کے پیچھے گیا اور وہ پیشوں سے عالم  
ہو گیا اور سردار اولیا بن گیا۔ واثق ولایت ہو کر لائق ولایت و معلم علم ظاہری و  
و باطنی ہوا۔ جس نے اس سے تعلیم حاصل نہ کی وہ بے فیض رہا الناس عالم  
و متعلو و سائر الناس کا لمہج ایک جماعت کو دفتر خانہ ظاہری عطا فرمایا  
اور دوسری جماعت کو معرفت خانہ محبت بخشی۔ وہ اہل ولایت ہو گئے حضرت علی  
نے سلسلہ ولایت ان چار حضرات کو عطا کیا۔ حضرت حسن و حسین و کمیل ابن زیاد  
اور خواجہ حسن بصری کو۔ حضرت حسن کو خلافت حکومت و ولایت عطا ہوئی یہ  
کسی اور کو نہ دی اس کے بعد خلافت سلطنت ولایت حضرت حسین کو ملی۔  
آپ نے ان دونوں کی تربیت اپنے صاحبزادوں کو دی اور شعار ظاہری  
و باطنی کے اعتبار سے ان کی رہنمائی کی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق سے یہ  
سلسلہ ولایت سب میں پھیل گیا۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا جائے گا کہ خلافت  
ولایت حضرت خواجہ کمیل ابن زیاد کو ملی تھی۔ فیض ولایت سے آپ کے  
سلسلہ میں داخل ہو کر کتنے حضرات نے فیض حاصل کیا یہ بات بالکل واضح  
ہے اس کے بعد خلافت ولایت حضرت خواجہ حسن بصری کو ملی جو ایک شجرہ  
متین ہیں چنانچہ یہ درخت بہت پھولا پھولا اور اس کے بیج پھول پھول پھول  
اور پتے ظاہر ہوئے اور شاہدہ میں آئے اس زنجیر کی تمام کڑیاں برابر آپس  
میں ملتی چلی گئیں از روئے ارادت و خلافت و نعمت و بیعت و ارادت  
ولایت مطلق و مقید و تصدیق شریعت تمام بار کو اٹھایا اور اس سے ثمرہ



حاصل کیا۔ جو اس رشتہ ولایت میں پرویانہ گیا وہ بے پروئے ہونے کے باعث اس سے الگ رہا گو یا ثلث اسلام جو کہ شریعت ہے اس پر صادق آیا اور دو ثلث سے محروم رہا جو کہ ولایت حضرت رسالت اور مطلق ہے۔ لیکن شریعت پر عمل کرنے سے اصل مدعا حصول طریقت ہے اور طریقت سے معرفت حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ان میں سے کسی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پس ہر مرد و عورت کا یہ فرض ہے کہ صحیح سلسلہ میں جو خلافت مع نعت ارادت کا حامل ہو ایسی ہستی کے سلسلہ میں داخل ہو کر خود کو اس میں منسلک کرے اور اس سے بیعت کرے مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ کے رتبہ سے گریز کرے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا: بیت

ہر کہ را پیر سے نباشد پیر او شیطان بود

خواجه جگے بے پیر بودن کار نادانانے بود

آئندہ خلافت و ارادت کا ذکر اکثر آئے گا۔ یہ واضح ہو کہ ولایت مطلق مثل بارش کے ہے اور خاص و عام کو قطروں سے نسبت ہے جب زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو کر خوب تر ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام قطرات جمع ہو کر بہتے ہوئے ناودان اور میدانوں گزر رہتے ہوئے نہروں اور دریاؤں میں جا پہنچتے ہیں۔ اور دریا ان کو دریائے محیط میں پہنچا دیتے ہیں تو اپنی ماہیت میں جا کر پھر وہی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تفریح کے لیے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو بھاپ بن کر نکلتے ہیں اور بادل ہو کر پھر بوندوں اور قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دور واحد بمرکز واحد جب قطرہ اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنی جگہ یعنی بھارت

کے ساتھ باقی نہیں رہتا گذرہ ہو جاتا ہے۔ پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں سے خشک ہو جاتا ہے۔ اس میں تری اور پانی نہیں رہتا۔ دونوں فنا ہو جاتے ہیں اور کل اس سے مواخذہ ہوگا تو جواب دینا مشکل ہوگا جو شخص احکام شریعت سے واقف ہے اور آثار طریقت و حقیقت میں واقف و راسخ ہے وہ ولایت مطلقہ و مقیدہ میں بیعت پسند کرے گا اور اِذِ اَدَّٰهُ تَزٰكُ الْعٰاٰتِ پُر تَطْرَرِ کھئے گا ہر مسلمان اپنی نسبت ایک شیخ سے بیان کرتا ہے اور اس کی نسبت ولایت مطلقہ و خاصہ والبتہ ہوتی ہے چنانچہ نہر اور دریلئے محیطہ دونوں میں ایک ہی چیز یعنی پانی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ طالب سعادت مند کو صاف طور سے یہ معلوم ہو جائے کہ اصل خلافت ایک ہی سلسلہ کی تصحیح یافتہ ہو تو اس کا بار امانت اٹھانے کا بیان آخر میں آئے گا۔ حضرت سید الطائفہ ابو القاسم خواجہ جنید بغدادی کے دور میں درویشوں کے لباس کے چار صفتوں سے نام رکھے گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان کیا جائے گا۔ منجملہ ان کے ایک طریق ولایت کامل ہے جس کو کمال حاصل ہے اس کو آخر میں بیان کیا جائے گا۔ اب ہر لباس و ہر طریقہ جس کا نام خلافت ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے کہتے ہیں کہ سالک اس پر ایک بیک چلتا ہے اس کی مقبولیت کو بیان کیا جائے گا اس کے جو چیز کے حق و صحیح ہے اس کی تصحیح کرنا پڑے گی۔

شیخ پہلے غور کرے کہ جامہ خلافت کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے۔ کون اس کا اہل ہے اور کون نااہل۔ فقراء بادشاہان باذل و عالم و فاضل اور عابد و عامل و عادل ہوتے ہیں وہ کسی کی خواہش کو رد نہیں کرتے وہ جس کو دیکھتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے جیسا بنالیں وہ وارث بنی اور ہر پارحمت ہیں پھر بھی اس وقت انہیں چاہیے کہ صرف بیعت

و معرفت حق کی ہر ایک کو دعوت دیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کو ان سے محبت پیدا ہو اور ان کے افعال کو اختیار کر کے ان کے رنگ میں رنگ جلئے اور ہر حال میں پیر کی طرف متوجہ رہے اگر کوئی مرید شایان معرفت ہو تو بیعت کے بعد اس کیلئے دروازہ معرفت کھول دیں اور جو مرید اس کے لائق نہ ہو تو صرف بیعت پر اکتفا کریں جیسا کہ حضرت رسالتاب نے دعوت اسلام سب کو دی۔ اور صوفی کہ امام وقت ہوتا ہے اور مقتدا ہے عصر۔ وہ ہر ایک کو باخبر کرے اور ایسا روحانی جذبہ پیدا کرے کہ ہر شخص سلسلہ ولایت محمدی میں منسلک ہو جائے تاکہ اس کا اسلام قوی ہو اور حصہ باطنی حاصل کرے اگر کسی کو نسبت حاصل نہیں تھی تو اب یہ پیر اس کا وسیلہ وصول الی اللہ بن جائے گا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس شریعت کا فائدہ یہ ہے کہ خدا و رسول کو پہچان لیتا ہے۔ اس معنی میں جن لوگوں نے شریعت کا بار اٹھایا وہ مسلمان ہو ہو گئے۔ شریعت استحکام ظاہری کے لیے ہے اور مدعلیٰ باطن فیض ولایت ہے اس کے بغیر بھی حقیقت اسلام و ماہیت شریعت سمجھیں آتی ہے قرآن قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں ہمارا اس کو لکھنا پڑھنا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا یا حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ خلق قرآن کے قائل کو امام اعظم و دیگر ائمہ و صحابہ نے کافر کہا ہے اور حق تعالیٰ کے کلام نفسی سے فیض کامل حاصل نہیں ہوتا جب تک ولایت کا حصہ نہ ملے اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ ولایت حقیقی کو جانے۔ بعض متعلمین جو استاد شریعت ہیں خود کو مشائخ کے سپرد نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو صرف شریعت کافی ہے مگر انہوں نے اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھا جب کہ وہ خود کہتے ہیں کہ شریعت ایمان کا پوست اور پوست کبھی منغز نہیں بن سکتا

کیونکہ پوست کو بغیر مغز و جوہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر ان کو یہی کہنا چاہیے کہ مغز بے پوست نہیں ہو سکتا چاہے تجھے اپنی آنکھ سے نظر نہ آئے مگر پوست کسی طرح مغز نہیں ہو سکتا تا آنکہ مرتبہ مغز میں نیپہیے اور فائدہ پوست نہ حاصل ہو۔ اگر اس بات میں راسخ نہ ہو تو بے مغز پوست بیکار جائے البتہ خود کو ولایت مرد کامل کے ساتھ وابستہ کر دے کہ اس وقت دین ہے اور جب یہی کہیں کہ اس زمانہ میں کوئی فقیر نہیں رہا تو یہ بات ان کے مُنہ سے اس غلط دعوے کے مطابق نکلتی ہے ورنہ کسی وقت بھی درحقیقت دنیا ولایت دلی سے خالی نہیں۔ اگر خالی ہو جائے تو حکمت حق فوت ہو جائے اور دوسری ہی کیفیت ہو جائے اس کا وہ ہم گمان بھی نہیں ہو سکتا جب مرشد کامل کی تلاش ہو مشائخ کو مشائخ کی زبان سے سمجھے۔ ان کے اطوار پر نظر نہ ڈالے ان کے حال پر توجہ دے کہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اور کون سی منزل کی خبر دے رہے ہیں۔ جب سلسلہ حقیقت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے تو خبر ولایت دیتے ہیں اور طریقت تنزلات و ترقیات کا کشف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشائخ کو کو امامیہ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ان کا انکار نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو حقیقت میں تنقیص رکھتے ہیں۔ جب ایسا شخص نہ ہو تو پھر کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہو جائے جس کا سلسلہ صحیح ہو اور قدرے فیض ولایت تک اس کی رسائی ہو کیونکہ زنجیر ولایت کی تمام کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور جس طرح ہو سکے مستحق ولایت مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے ولایت کی تعریف حق تعالیٰ نے کس طرح کی ہے اور رسول علیہ السلام پر کن کلمات میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ مِثْلُ نُورِهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا

كُوكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا  
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى  
 نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأُمْتَالَ لِلنَّاسِ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ترجمہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور  
 کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس  
 میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت  
 والے درخت زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پھم کا قریب ہے کہ اس کا تیل  
 بھڑک اٹھے اگرچہ اُسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ  
 بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور  
 اللہ سب کچھ جانتا ہے تفسیر صوفیانہ یعنی حق تعالیٰ آسمان و زمین کا آراستہ کرنے  
 والا ہے اور اُس کے اپنے نور ولایت کی مثال آسمان و زمین کے درمیان  
 ایسی ہے جیسے طاق کہ اس میں انواع و اقسام کی روشنی ہو رہی ہے اور وہ  
 روشنی وجود انسان میں کہ نہ جاہ سے تعبیر ہے ظہور پذیر ہے اور نہ جاہ  
 تجلی اسمائے ذاتی و صفاتی سے منور و متجلی ہے اور وہ حقیقت انسان جو کہ  
 شجرہ متین ہے اور تمام نسبت اسی سے ہے اور وہ کسی سے منسوب نہیں خود  
 ہی روشن ہے اور قریب ہے کہ اس کا روحانی تیل خود بھڑک جائے اگرچہ اُسے  
 آگ نہ چھوئے۔ ولایت مقید کا سلسلہ ولایت مطلق تک پہنچ گیا تو اس میں روشنی  
 ہو گئی۔ خدائے تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اُسے اپنے نور کی طرف راہ دکھاتا ہے  
 اور یہ مثال مخلوق کے لیے بیان کی ہے کہ ایک کو ایک سے وابستگی ہو جائے  
 تاکہ دروازہ ولایت بند نہ ہو اور اس کا ظہور شوق و رغبت سے نہیں ہوتا ہے  
 اور خدا تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ قلب سلیم پر اس کی نظر ہے۔ انسان کو چاہیے

کہ اپنے وجود میں دوسری ماہیت کو خود تلاش کرے۔ جب انسان اپنی ماہیت کو سمجھ لیتا ہے تو اپنے وجود کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو عبارت ہے زمین و آسمان سے اور طاقت کی طرح ہے اور اس میں چراغ ہے زجاجہ کے اندر اور زجاجہ دل ہے اس میں چراغ رب روحی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث نبوی بھی وارد ہے اِنَّ فِيْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ لَمِضْعَةٌ وَفِي الْمِضْعَةِ نُورٌ وَفِي النُّوْرِ حَمِيْرٌ وَفِي الصَّمِيْرِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ اَنَا يَعْنِيْ جِسْمَ الْاِنْسَانِ فِيْ اَيْكٍ كُوْشْتٍ كَالْحَمْرِ اَيْ جِسْمِ الْاِنْسَانِ فِيْ رُوْشِنِيْ هَيْ جِسْمِ كُوْرَبِ رُوْحِيْ اَوْرَ فَيْضِ وَّلَايْتِ كَهْتُمْ هِيْ اَوْرَ اِسْمِ فِيْ خَمِيْرِ هَيْ جِسْمِ الْاِنْسَانِ فِيْ رُوْحِيْ اَوْرَ اِسْمِ فِيْ رَاٰزِ هَيْ جُوْا شَارَهْ هَيْ بَا سِ ذَاتِيْ پَرْدَهْ سِرَادِقَاتِ عَزْتِ كِيْ طَرَفِ اِسْمِ كِهْ كُوْنِيْ اَوْرَ نَسْبَتِ دُوْسَرِيْ كِسِيْ ذَاتِ كِيْ دَرْمِيَانِ مِيْنِ نَهِيْ سَهْمِ وَفِي السِّرِّ اَنَا ذَاتِ مَطْلُوْقِ پَر مَبْنِيْ هَيْ كِيُوْنِكُمْ اَنَا نَيْتِ اِسْمِ كِيُوْنِيْ لَازِمِ هَيْ لِمَسْنِ الْمَلِكِ الْيَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاْحِدِ الْقَهَّارِ پَرْدَهْ اَعْدِيْتِ مِيْنِ پَهِيَا هُوَا هَيْ اِسْمِ سَهْمِ تَرْقِيْ وَتَنْزَلِ كَا نَطْهُورِ هَيْ الشَّرِيْعَةُ اَقْوَالِيْ وَ الصَّرِيْقَةُ اَفْعَالِيْ وَ الْحَقِيْقَةُ اَحْوَالِيْ جَبِ اَهْلِ شَرِيْعَتِ حَقِيْقَتِ تَكْ نَهْ پَهِيْجِ سَكِيْ تُوْ هَيْ شَرِيْعَتِيْ كُنْتُ سُرَابًا وَقَدْ حَيَاتِيْ كَمَا كَرْتَلِهْ اَوْرَ ہرگز سرمایہ ماہیت تک رسائی نہیں پاتا۔ جب اہل طریقت میں شریعت نامکمل ہوتی ہے تو یہ نقصان افعالی تو ہوتا ہے۔ لیکن تنقیص حالی نہیں ہوتی اور ملت محمدی سے دور نہیں ہوتا اور جب افعال میں راسخ ہوتا ہے اور احوال میں واقع نہیں ہوتا تو محنت بیکار جاتی ہے کیونکہ یہ ولایت ہے اور ولایت بغیر ولایت کے کبھی حاصل نہیں ہوتی عَدَوْتُ رَبِّيْ وَ دَخَلْتُ رَبِّيْ بِرَبِّيْ اِسْمِ رَاہِ پَر نَظَلِيْ كِهْ پُوْسْتِ كِهْ مَغْزِ نَهِيْ بِنِ سَكْتَا اَوْرَ اَيْكِ اَوْرَ رَاٰزِ كِيْ بَا تِ سَنُوْ كِهْ اَهْلِ حَالِ جَبِ حَقِيْقَتِ سَهْمِ تَنْزَلِ كَرْتَلِهْ

تو طریقت میں پہنچتا ہے اور جب طریقت سے تنزل کرتا ہے تو شریعت میں پہنچتا ہے اور جب شریعت سے تنزل کرتا ہے تو ضلالت و کفر میں گر جاتا ہے اور کفر سے نکل کر شریعت و طریقت میں آتا ہے اور عروج طریقت سے حقیقت کی ارفع و اعلیٰ منزل ملتی ہے۔ کامل غور و خوض سے کام لے اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ تتمہ میں جو بیان کرنا تھا وہ کر دیا الحاصل دیانت دار و پرہیزگار شخص کا ہر عمل ہمیشہ تقویٰ و طہارت پر مبنی ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں مہمک رہتا ہے آگے پیچھے دوسروں پر نظر نہیں رکھتا وہ کسی دُوریش سے وابستہ ہو کر عادی طور پر راہ سلوک پر گامزن رہتا ہے۔ اکثر اوقات درویش کو اپنی نظر کے سامنے رکھتا ہے اور درویش اس کو سینہ سے لگا کر دلجوئی کرتا ہے۔ یہ مرید کی حیثیت سے اس کی طرف توجہ کامل رکھتا ہے اور وہ مرشد ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ اظہارِ شفقت کرتا ہے۔ اسی طرح جب پیر اپنے کسی مرید کو اپنا خرقہ دیتا ہے تو اس کو خرقہ تبرک کہتے ہیں اور یہ کبھی مناسب موقع پر پہنا جاتا ہے اور کسی مرید کو خرقہ نہیں ملتا کیونکہ وہ شایانِ خلافت و رہبری نہیں ہوتا اور جس کو خرقہ پوش دیکھتے ہیں تو اہل خرقہ اس کو پیر نظر تصور کرتے ہیں اور وہ دُوریش اس کو اپنا منظور نظر سمجھتا ہے ایسے آدمی کو اصطلاحِ مشائخ میں پیر نظر کہا جاتا ہے۔ ایضاً جس شخص کا تذکرہ نفس ہو جائے اور باطن کدورت سے موصفا ہو جائے اُسے ہر اچھی بات اچھی معلوم ہوتی ہے قلق و جدان بھی بہت ہوتا ہے اور اور ذکر و فکر میں متوجہ رہتا ہے اور سماع میں اکثر اوقات سبقت کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے اور ہمیشہ مشائخ و تصوف و سلوک کے تذکرے انواع و اقسام کی کیفیات کو یاد کرتا ہے لیکن رتبہ مشیخت تک نہیں پہنچتا اور

مشائخ کے احوال مشاہدہ و حضور و قبض و بسط و سیر مبداء و معاد سے محروم رہتا ہے۔ اگر مشائخ ایسے شخص کو خرقہ عطا کر دیں تو یہ خرقہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اگر خلیفہ ہمیشہ باہر مشائخ میں رہے تو کوئی حرج نہیں امید ہے کہ اس کی یہ کمی دور ہو جائے اور اس بہنور سے نکل کر اہلیت کی دولت مل جائے تو پھر از سر نو پیراں کو خرقہ تشبیہ کے پہننے کا حکم دے تو یہی خرقہ خرقہ خلافت ہو جائے۔ استحقاق خرقہ تشبیہ صرف اسی قدر ہے جو ذکر ہوا مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ایضاً ایسا بزرگ جو اہل خلافت و اہل ولایت ہو اور تمام لوگ اسے اپنا امام و مقتدا سمجھتے ہوں اور پیشوائے قوم بن چکا ہو ایسے بزرگ کا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اگر وصال ہو گیا ہے اور اس نے اپنے چند فرزند چھوڑے ہیں لیکن ان میں کسی نے کوئی روحانیت یا ولایت کا حصہ نہ پایا اور تیسرے روز بعد فاتحہ سوم اکابر شہر نے جمع ہو کر ان میں سے کسی کو اس کا جانشین بنا دیا اور خرقہ و جُبَّہ و دستار پہنا دیا تو وہ وارث دولت و مکان ہو کر مندر نشین ہو گیا لیکن وہ اس کا حقیقی وارث نہیں ہوا۔ وارث حقیقی تو وہی ہے جس کو اس کے والد بزرگوار نے اپنی حیات میں نسبت ولایت کی راہ دکھائی ہو اور ارشاد علم و معرفت کا نور اس کے دل کو روشن کر چکا ہو اور اس کا میا بی کے بعد خلافت سلسلہ اپنے سامنے عطا کی ہو صرف تیسرے روز کی خرقہ پوشی کے بعد کسی کو بیعت کرنا اور خلافت دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر ارشاد کی چند باتیں بزرگوں کی کتابوں سے یاد کر کے ہدایت کا سلسلہ شروع کرے تو کسی پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جو ایسے آدمی سے بیعت ہو جائے گا وہ آخر افسردہ و در ماندہ ہو کر بیعت فسخ کر دے گا۔ ایضاً جو بزرگ اہل اللہ میں سے ہو اور اس کی اہلیت سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو اور اس دور



کا مقصد اور مرشد مشہور ہو، اقوال و افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں راسخ ہو ایسے بزرگ کو اپنے اتہال کی پہلے ہی قدرت کی طرف سے خبر ہو جائے اور اس کے چند فرزند ہوں تو ان میں سے جس کو اس قابل دیکھا ولایت میں برگزیدہ بنا دیا اگرچہ منصب کے سمجھنے کی کامل استعداد نہ ہوتا ہم خلافت اس پر صادق آئے گی اور اس کی خلافت والد کی روحانیت و ولایت کی مدد سے مکمل ہو جائے گی شریعت میں راسخ ہو کر ولایت کی طرف متوجہ ہو گا اور اس دور کے مشائخ بھی اپنے سامنے تربیت دے کر اس کو کمال سے آراستہ کر دیں گے تو پھر وہ ان مشائخ کے بعد دوسروں کو بیعت کرنے کے لائق ہو جائے گا وہ کبھی یہ خیال دل میں نہ لائے کہ میری بزرگی والد کو ناگوار ہوگی کیونکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی ترقی سے ناخوش نہیں ہوتا بلکہ اپنی اولاد کی عزت اپنے سے زیادہ ہونے کا خواہاں رہتا ہے۔ بعض لوگ بیوقوفی سے اور اپنی بزدلی سے ریاضت کی مشقت کو برداشت نہیں کرتے اور دوسروں پر اپنی یہ کمزوری تو ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے راہ سلوک میں اس لیے قدم نہیں رکھا کہ ہمارے پیر و مرشد اور والد بزرگوار اس سے ناراض ہو جائیں گے آیہ کریمہ اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ اگر ایسا ہوتا تو دین ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ حضرت رسالتا ب کی آمد پر منسوخ نہ ہوتا اور دین محمدی کا ظہور نہ ہوتا انبیاء جاتے اور آتے رہتے۔ دینی امانتیں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہیں۔ روحانی اقتدار یکے با دیگر سے تفویض ہوتے رہتے لیکن کسی کو کوئی ناگواری پیدا نہ ہوئی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا ارشاد قائم رہا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر برحق ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار یا ادنیٰ توہین کفر ہے۔ اسی طرح ہر دور میں ہر ولی کی ولایت مقبول و مستلم ہے۔

ایضاً بعض لوگ ولایت کی عزت خاک میں ملاسنے کے لیے نااہلوں سے بیعت ہو کر خرقہ خلافت پہن لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ نااہل اس حکمت سے کام لیتے ہیں کہ سلسلہ کے کسی بزرگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری قبر کا مرید ہو جائے اور جس سے ہمارے نام پر بیعت ہو جائے میں نے اس کو قبول کیا یہ بات درست نہیں ہے۔ حیات پیر اور مرید کا اس تک پہنچنا شرط ہے کیونکہ یہ لوازم بشریت سے ہے۔ ہدایت و رہنمائی صوت مثالی سے ہوتی ہے۔ دنیاوی کاروبار اسی طرح ہو رہا ہے۔ جو ایسا نہ کرے اور شیخ کی حیات ظاہری کو شرط بیعت نہ تسلیم کرے وہ زندیق ہے کیونکہ کاروبار دنیاوی خالی از تدبیر نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میرے بعد کسی کو مجھ جیسی حکومت نہ دینا آئیہ کریمہ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّو يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي يَهَبُ لِي كَمَا تَشَاءُ أَلَيْسَ بِكَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ؟

کے تیس سال بعد جس آپ کو خواب میں دیکھا یہی فرماتے ہوئے دیکھا کہ جو درویش خاص کسی کو ہدایت سے باز رکھے گا وہ مسلمان ہے لَيْسَ كَذَلِكَ يَعْنِي أَيْسَا نَهِيں ہے بلکہ درویش تو طبیب کی مثل ہے اور أَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ أَيْسَا ہے اس سے یہ حکمت وجود میں نہیں آتی شاید اس طرح کہا ہوگا کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو میں نے قبول کیا جہاں کہیں ہمارا سلسلہ مل جائے اس سے منسلک ہو جانا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی شخص حضرت رسالت سے بڑھ کر نہیں ہے وہ یہ حکم صادر فرماتے کہ کوئی کسی اور کی طرف میری امت میں سے توجہ نہ کرے سوائے میرے۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ میری امت کے بارے میں یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر افضل؟

اُمَّتِي لَا يَدْرِي اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ وَّاٰخِرُهُمْ خَيْرٌ وَيَكْفُرُونَ اَسَىٰ عَلٰى مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ

کیا جائے ایضاً ایک درویش بیعت کسی اور سے ہوا اور خلافت کسی اور سے حاصل کی۔ مرشد نے بھی اُس کو پیر و پیشوا کی حیثیت سے ہر ایک سے روشناس کرایا چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایک ہی پیر کی روحانی توجہ سے خدا تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض دس کی مدد سے اور بعض سو بزرگوں کی توجہ سے داخل الی اللہ ہوتے ہیں چنانچہ مخدوم جہانیاں نے فرمایا ہے کہ جب مرید اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا اور اس کی امامت و پیشوائی کا ظہور ہو گیا تو اب وہ جس نسبت سے بھی خلق خدا کی رہنمائی کرے گا اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ خواہ وہ پیر بیعت سے نسبت دے یا پیر خلافت سے یا پیر مرشد کے ساتھ۔ واضح ہو کہ پیر بیعت و پیر ارشاد کامل نہ ہو تو وہ چند روز جب تک یہ مرد عارف نہ ہو جائے وہ اس کا وسیلہ بنتا ہے اور جب یہ عارف ہو گیا تو پھر وسیلہ کا ادب باقی رہ جاتا ہے، وسیلہ نہیں رہتا کیونکہ اس نے اپنی تعلیم خود شروع کی اور اس کی تکمیل کر کے اور دوسروں کو بھی اپنی تعلیم پر ڈال دیا لیکن اپنے پیر کا علم حاصل نہ کیا تو منزل کمال تک اُسے رسائی حاصل نہ ہوگی وہ اپنے مشائخ کو اپنی استعداد کے مطابق ملاحظہ کرے گا اور ان میں سے کسی ایک سے فیض پا کر اس کی اطاعت کرے گا اور ان کے سلسلہ کو جاری کرے گا۔ اگر ایسا نہ کرے تو یہ اس کی بددیانتی ہوگی اور آخر کار اس کے سلسلہ کی برکت نعمت سے محروم رہے گا کیونکہ جو کسی کے حق کو پائمال کرتا ہے روحانی نعمت و سعادت کے لائق نہیں رہتا۔ مَنْ لَوِ شَكَرُ النَّاسِ لَوِ شَكَرُ اللَّهِ يَهْدِيهِ إِلَى طَرِيقِهِ هُوَ كَمَا دَسَّ پیروں کی مدد سے خدا تک پہنچے واضح ہو کہ ایک شخص نے شہر کی راہ اختیار کی اور اٹھارے راہ میں بہت سڑکیں نظر آئیں یہ وہاں رُک کر کھڑا

ہو گیا کہ اب کس راہ کو اختیار کروں کسی سے راستہ معلوم کر کے چل پڑا اس شہر تک پہنچتے پہنچتے چند آدمیوں سے اور بھی راستہ شہر کا دریافت کیا اور رہبروں میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی رہبری کے اعتبار سے استحقاق پیدا ہوا اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے ایضاً ایک آدمی نے ولایت کی تمام باتیں ایک درویش سے حاصل کیں اور اس سے خلافت نہ ملی اس کے بعد کسی اور شیخ سے خلافت کو حاصل کیا تو دونوں بزرگوں میں سے کس کو اپنے اوپر غالب سمجھے۔ اصل میں حق مرشد ہی اس پر غالب رہے گا کہ اس کا حق خلافت و رسول کے حق کی مانند ہے اور حق خلافت نصیح سلسلہ ہے اس کو پر خلافت کہا جاتا ہے ایضاً ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے خود بخود تکمیل ولایت کی لیکن ولایت مشائخ کے ساتھ وسیلہ حاصل نہ ہوا اور کسی سے شجرہ خلافت نہ لیا اور ماہیت مبداء و معاد انزل سے ابد تک کی اس پر ظاہر ہو گئی اور چند معتبر محققین نے اس کی ولایت کی تعیین کر دی تو اگر ایسا آدمی ایک دو آدمیوں کو بیعت کر کے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اگر اس سے آگے قدم رکھے گا تو ضلال و مضل ہو جائے گا کیونکہ وہ وابستہ ولایت محمدی نہیں ہے البتہ سلسلہ کی نسبت سے جتنا اشارہ اُسے ہوا ہے قوت ولایت کے ساتھ وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ عالم ہے اس کا احتمال ہے کہ ایک دو افراد کی رہنمائی کر سکتا ہے ایضاً ولایت عجم میں کبھی سراٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اویسیہ ہیں اور بڑے شغف کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے اویسی قرنی کو رہبروں کے بغیر ہی رتبہ ولایت مل گیا تھا ایسے ہی ہم کو بھی مل گیا ہے۔ یہ لوگ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ خواجہ اویسی قرنی کا مقام سب سے بالاتر تھا ایسے حضرات کے لیے جستجو سے مرشد کی

شرط نہیں ہوتی ان کا خاصہ لباس احدیت ہے اس کے باوجود رسول علیہ السلام نے ان کی ولایت کی شہادت دی اس لیے ان کی ولایت کی تصدیق ہو گئی۔ اب جو ایسی کہلاتے ہیں ان کی ولایت کے لیے بھی حضور ہی جیسا شاہد ہو تو ان کی تصدیق ہو سکے لیے شخص کی طرف بیعت و ارشاد و خلافت کے سلسلہ میں کوئی شخص بالکل توجہ نہ کرے اور بعض لوگ اپنے کو حضور یہ کہتے ہیں ان کو بھی انہیں پر قیاس کیا جائے ایسا جہاں سلسلہ حضرت اریس قرنی ہو وہ صحیح ہوگا اور اس سے فائدہ حاصل گا کیونکہ حضرت سب سے ماورا تھے اور صاحب ولایت مطلق بعد میں ان کی ولایت میں ولایت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقویت حاصل ہوئی اور آپ سلسلہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسلک ہو ہو گئے جو اس ولایت و خلافت کو پائے گا فیضیاب ہو کر سعید دارین ہوگا۔

ایضا روایت ہے کہ جب سید اپنے صحیح سلسلہ میں بیعت کرے تو جائز ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم بارہ اماموں تک ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ اماموں تک عربی زبان، علم بدیع و بیان جو قرآن میں آیا ہے اور اپنا طریق خاندان سب کو خوب بطریق کامل حاصل تھا اور پشت و پر پشت دونوں نسبتوں کے سید رہے۔ کسی دوسری قوم کو اس میں عمل دخل نہیں تھا اور ہر ایک نے چراغ ولایت جلا یا اور شریعت کا اتباع کیا۔ تصیح ولایت و سلسلہ خلافت ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا اور یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رہا ان حقائق کی روشنی میں یہ تمام باتیں جائز تھیں۔ اس دور میں سادات کی نسلیں ہر ملک و قوم میں پھیل گئیں اور مختلف زبانیں بولنے لگیں، عربی زبان کا علم نہ رہا اور اپنے بزرگوں کے طریقوں سے نا آشنا ہو کر رہ گئیں۔ اس زمانہ کے سیدوں کا تجربہ ہو چکا کہ وہ نہ اپنے بزرگوں سے باخبر ہیں اور نہ ان میں خاندانی اثرات

باقی ہیں۔ دوسروں کا لباس پہننے لگے اور شریعت پر بھی قائم نہ رہے اسی لیے  
 ان میں ولایت کے اثرات باقی نہ رہے۔ اب وہ صرف سید کہلانے کے مستحق  
 ہیں لیکن یہ شرف بھی ان کے حق میں کچھ کم تو نہیں ہے۔ جب ایسا شریف سلسلہ  
 بیعت و خلافت کو زندہ کرنا چاہے تو بزرگوں کی خدمت میں رہ کر اپنے جدا مجد  
 کی نعمت و سرمایہ معرفت حاصل کرے، بیعت و خلافت و نعمت کی قدر و  
 منزلت کرے تو اس کا باطن نور علی نور روشن ہو جائے گا۔ اب اگر وہ خلق خدا  
 کو بیعت و خلافت میں داخل کرے گا تو مستحق ثواب ہوگا اور عتاب سے محفوظ  
 ہو جائے گا کیونکہ یہ راہ راہ دین و اسلام ہے ایضاً جب مرشد و مترشد  
 دونوں کامل ہوں اور مرشد مترشد سے فرمائے کہ میں نے تیرے فرزندوں  
 کو بیعت کر لیا اور خلافت و نعمت بھی انہیں عطا کر دی اور اسے مترشد تم  
 کو میں نے اپنا نائب اور بچوں کا وکیل بنا دیا اور نعمت و خرقہ و کلاہ ان کے لیے  
 مخصوص کر کے لوگوں کو اس کا گواہ بنا دیا اور بچے ابھی چار پانچ سال ہی کے  
 ہوں تو جائے ادب ہے کہ مترشد قبول کر کے وکیل ہو جائے۔ جب  
 بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں خبر کر دے کہ ہمارے پیر تم پر یہ عنایت کر کے  
 دنیا سے چلے گئے اور میں وکیل معتبر ہو کر تم کو حق تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہوں تمہیں  
 یہ بات قبول ہے یا نہیں اگر وہ قبول کر لیں تو سلسلہ مرشد میں داخل کر کے  
 انہیں مقصود اصلی تک پہنچا دے۔ اس کے بعد وہ فرزند ان سلسلہ کی طرف  
 متوجہ ہو جائیں اور والد سے تمام نعمتوں کی تصحیح کرے اور ان سے بھی تجدید  
 سلسلہ کریں اور دونوں سے عقیدت قائم رکھیں ایضاً اگر کوئی مرد مسافر نظر  
 آئے اور اس کی نسبت بیعت و خلافت معلوم نہ ہو اور ہر وقت ہرزبان میں  
 میں آشنا کی سی باتیں کرتا ہے پھر چھپاتا ہے اس سے کس طریقہ سے حصول

نفی کیا جائے اَلْمَذْمُومُ مَخْفِيٌّ تَحْتِ لِسَانِهِ چنדר وند اس کا تجربہ کیا جائے اور اس کی حقیقت معلوم کریں، اس کی دیانت میں کافی غور کریں کہ اس کی زبان سے بددیانتی کا اظہار تو نہیں ہوتا۔ اگر وہ سچا اور دیانت دار ہے تو جو مراد بھی ہو اس سے حاصل ہوگی اس کو اپنا پیشوا بنائیں اور بیعت ہو کر خلافت حاصل کریں ایضاً اکثر فقراء جب مقام قبولیت میں پہنچتے ہیں اور ولایت میں مباہلہ کرتے ہیں تو ان کو مشائخ خود معاملہ خلافت و تلقین میں قبول کر لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت سے بھی بار بار نوازش و کرم ہوتا ہے تو وہ اس خلافت کو اپنی باطنی مقبولیت سمجھے۔ تصحیح خلافت ہی لباس فقر و خلافت ہے۔ اس قبولیت سے وہ اوروں کو بھی مقبول بنائے یا نہ بنائے یہ اس کی مرضی ہے۔ بعض مشائخ کراکڑاویا سے خلافت و شرف و بزرگی حاصل ہوئی لیکن اس سے سلسلہ بیعت و خلافت جاری نہ ہوا۔ اگر کوئی دل میں یہ خیال لائے کہ اس کی نسبت باطل ہے۔ رد صورت مثال رد مثال محمود ہے اس لیے یہ بہودہ خیال دل میں نہ لائے۔ اس فقیر کو اکثر مشائخ سے لباس خلافت بلا جس کا آخر میں ذکر لائے گا۔ ایضاً ان مشہور سلسلوں کے علاوہ ایک ایسا سلسلہ بھی عرب و عجم میں ہے کہ اس میں صرف مصافحہ ہے اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے مصافحہ کے ذریعے مصافحہ حضرت رسالت تک پہنچتے ہیں اس سلسلہ مصافحہ میں رشد و ارشاد و معرفت و خلافت کا وجود نہیں ہے اہل سلسلہ صرف وابستہ مصافحہ ہوتے ہیں کہ مصافحہ سنت موکہ ہے اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے نقل ہے کہ ایک روز حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی خندق کھودی جا رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک، ایک ایک زنبیل میں مٹی بھر بھر کے باہر پھینک رہا تھا اور حضرت معمر رضی اللہ عنہ

دو تہیل مٹی بھر کے اوپر ڈال رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور خندق سے اوپر بلایا اور فرمایا اَعْمَدَكَ اللَّهُ يَا مَعْصِدُ یعنی حق تعالیٰ تمہاری عمر ڈال کرے اسے معمر حضرت معمر نے عرض کیا حضور اور دعا فرمائیے میرے لیے تو حضور نے تین مرتبہ یہ دعا کی پھر معمر نے یہ عرض کیا کہ عمر سے بھی زیادہ بہتر حضور مجھ پر نظر کر م فرمائیں تو آنحضرت نے ان سے مصافحہ فرمایا اور کہا کہ جو تم سے مصافحہ کرے اور جس سے تم مصافحہ کرو گے وہ پھٹی اور ایک روایت کے مطابق ساتویں جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ کی آگ اُسے نہ جلائے گی پس حضرت معمر صحابی رضی اللہ عنہ نے شیخ ابوالعباس ملتئم سے مصافحہ کیا اور انہوں نے شیخ ابوالعباس قوسی سے مصافحہ کیا اور انہوں نے شیخ احمد تو نوری سے مصافحہ کیا اور انہوں نے قطب الاقطاب شیخ زین الحق والدین الخوانی سے مصافحہ کیا اور انہوں نے شیخ مظفر کتانی سے مصافحہ کیا اور انہوں نے شیخ عبداللہ شطاری سے مصافحہ کیا اور انہوں نے شیخ قاضی فرودوسی سے مصافحہ کیا اور اہل ہند کو یہ دولت اپنے شیخ سے ہی ملی اور شیخ زین الدین الخوانی اور حضرت معمر صحابی رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں کیونکہ ان کی عمریں دراز ہوئی ہیں معمر رضی اللہ عنہ نے پینچیر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کامل تین طبعی عمریں پائیں پھر شیخ زین الدین قدس سرہ العزیز نے اپنے پیر ارشاد نور الدین عبدالرحمن مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس مصافحہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ نسبت مصافحہ صحیح ہے آؤ مجھ سے مصافحہ کرو کہ میں نے احمد مغربی خادم شیخ ابوالعباس ملتئم سے مصافحہ کیا ہے پھر شیخ زین الدین خوانی نے بھی یہی فرمایا کہ اسکنہ یہ میں ہیک پیر شریف تھے ان کی ایک سو تیس سال کی عمر ہو چکی تھی انہوں نے مجھ سے یہ مصافحہ



فرمایا اور انہوں نے شیخ ابوالعباس قوسی سے مصافحہ کیا تھا اور انہوں نے شیخ  
 ملثم سے اور ان پر شریف اسکندریہ نے شیخ ابوالحسن علی خطاب سے بھی مصافحہ  
 کیا تھا اور انہوں نے شیخ علی حیفی سے مصافحہ کیا تھا۔ یہ سلسلہ مصافحہ نہایت  
 ہی قریب کا ہے کیونکہ اس میں صرف مصافحہ ہے لائق مرشدی وہ بہری نہیں  
 ہے صرف ایک شخص پر اعتماد بمصافحہ ہے اس کے ساتھ اگر معرفت ولایت  
 سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی حاصل ہو جائے تو زہے سعادت۔  
 اس دولت سے مشرف ہو کر اس وعدہ سے استفادہ حاصل کرے۔ ایضاً  
 اصل خلافت ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ تمام اولیا کے سردار ہیں  
 ان کا سلسلہ سوتی کی لڑی کے مانند ہے جس کا ہر دانہ چمکدار ہے اور ایک  
 دوسرے سے مربوط اور درّ یتیم حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 تک پہنچتا ہے۔ رشتہ ولایت سے منسلک ایک نور ہے روشن کرنے والا  
 اور نسبت خاص و عام کو اپنی گرفت میں لینے والا۔ جو اس سلسلہ نورانی میں  
 داخل ہوا اس نے سعادت دارین حاصل کی اور جو اس لڑی میں پرویا نہ گیا محروم  
 رہا۔ جو لائق درگاہ ہوگا وہ اس سلسلہ سے بیعت و خلافت و رشد حاصل کرے  
 گا اور ولایت مطلق و خاص سے وابستہ ہو جائے گا۔ ان سلاسل کے اولیاء  
 محافظ ہیں۔ فیص احدیت کے لیے پر کامل مرید عامل کو اپنے سامنے ریاضت  
 و مجاہدہ کر لے اور اس کے باطن کو مصفا کر کے مرتبہ ولایت پہنچاتا ہے  
 اس کے بعد نعمت ابدی عطا کرتا ہے تاکہ آئندہ اس میں شبہات کی گنجائش  
 نہ رہے۔ جو اس کی شان کے لائق ہوتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے۔ زیادہ مستحق  
 خلافت کون ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ خلافت کس کو دی جائے اور کب  
 دی جائے۔ اس سلسلہ میں بزرگوں نے جو فرمایا ہے اسے سمجھنا ضروری

ہے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب سالک علائق و عوایق دنیا کو ترک کر دے اور عالم تجرید میں رہ کر خود سے تفرید پیدا کرے کہ یہ علامت معرفت ہے اور نشان محبت یہ ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر حق کی جانب رخ کرے۔ ایسا شخص لباس خلافت کا مستحق ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ جب سالک کے ذہن میں یہ بات متعین ہو جائے کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے۔ رد و قبول، خیر و شر، مراد و نامرادی قہر و لطف، قبض و بسط، عزت و ذلت، فراخی و تنگی، حیات و موت تمام باتیں اسی کی طرف سے ہیں بے اس کے کوئی متصرف نہیں ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کافی یکفی فی اللہ یکفین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تصدیق کرتا ہو تو اس کو خرقہ خلافت دیا جائے ایضاً بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب استاد اہل شریعت ہو اور اس نے تحصیل علم کی تکمیل کر لی ہو اور وہ سوئی کے ناکہ کی برابر بھی شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے اور اس کا کوئی عمل بغیر روایت کے نہ ہو مگر ہدایت داور معروف کہ جب وہ اپنے آپ سے ہی میں نہیں رہتا تو مدہوش ہو کر اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی ایسے شخص کو خرقہ خلافت عطا فرمائیں اور ہدایت کر دیں کہ اکثر نوافل میں مشغول رہے کہ یہ اس کا ذکر ہے اور کتاب حقائق کا مطالعہ کر کے اس کے درس میں مشغول رہے۔ ایضاً بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لہو و لعب، کینہ و حسد و بغض و غرور شکایت و کنایت و دعا و خداع و غیبت و رمز و اشارت و عمارت اور ان کے مثل تمام باتوں سے پرہیز کرے اور پنجوقتہ نازا اور نماز تہجد بلا ناغہ بظہور دل ادا کرے تو وہ مستحق خلافت ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں قطب عالم سے منقول ہے اور خزانہ زاہدی میراں سید زاہد سارنی اور خزانہ الروایہ میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے۔ ایضاً مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص حدوث

دنیا سے پاک ہو گیا ہو اور شعور بشریت سے گذر چکا ہو اور عقیقہ سے باخبر ہو کر استغفار  
 کرتا ہو کہ حدیث ظاہری وضو سے پاک ہوتا ہے اور غسل سے تمام جسم پاک ہو جاتا  
 ہے اور مقام قرب نوافل سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت شیخ شرف الدین مینیری اپنے  
 مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ درویش نہ اس سے اور نہ اُس سے ہوتا ہے بلکہ  
 درویش وہ ہے جس کا قیام حق کے ساتھ ہو اور حق اُس پر مفیض ہو اور وہ صرف  
 ایک آلہ کی طرح درمیان میں ہو اس سے کبھی شرک خفی سرزد نہ ہو اور اس تک اس  
 کو راہ نہ ملے واضح ہو کہ شرک خفی بہت سے پردوں میں پوشیدہ ہے اور  
 سزا الوہیت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے خبر دار رہے اور جب خبر دار ہو  
 جائے چنانچہ فرمان نبوی ہے الشِّرْكَ الحَفِيُّ فِي اُصْتِي مِنْ زَبِيبِ اللَّيْلِ  
 عَلَى صَخْرِ الصَّخَّارِ لَيْلَةَ الظُّلَمَاءِ اُس کے حق میں کار ولایت راسخ و صادق  
 ہے اور پھر ہدایت و بیعت ان کے لیے زیبا اور شایان شان ہے اور وہ عالم و  
 معلم ہو کر اولیاء و انبیاء کی مجلس میں جگہ پائے گا ایسا شخص خرقہ خلافت کے  
 لائق ہے اور ولایت کا بار اس کے حوالے کیا جاسکتا ہے ایضا ایک مشائخ  
 کا گروہ کہ سلسلہ عشیقہ میں ان کا مشرب شطار ہے یہ ولایت کے کار و بار میں  
 جرات و سرعت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کار تمام دوسرے مشائخ اکیسیر کا حکم  
 رکھتے ہیں جس تانبے تک پہنچتے ہیں اُسے سونا بنا دیتے ہیں اور اُسے بغیر سونا  
 بنانے باز نہیں رہتے اسی وجہ سے بوتہ ریاضت و مشقت دولت میں آتا پتے  
 ہیں تو سونا بنتے ہیں اسی طریقہ سے دوسروں کو اکیسیر بناتے ہیں جب وہ ایسا  
 نہ کریں تو لائق خلافت و بار ولایت نہیں بنتے اور مشائخ مشرب شطاریہ  
 کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حکم زہور کھتا ہے وہ جس نام تربیت کو چاہتے ہیں ایک  
 نظر سے تربیت یافتہ بنا دیتے ہیں ان کے آثار و احکام کا پروانہ نہیں ہوتا۔

ان میں زہور کی استعداد کامل ہوتی ہے اور ان سے اور بھی زہور حاصل ہوتی ہیں۔ ہماری جماعت کی تاثیر نظر مجاہدہ دریا صنت پر موقوف نہیں ہے حضور در حضور اور مشاہدہ در مشاہدہ ہے ہر حال اپنے حال میں موجود ہے۔ جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اُس کو خلافت و اجازت پہلے دیتے ہیں اس کے بعد کانوں ہی کانوں اطلاع پہنچتی ہے اور ارادت باطنی حاصل ہو جاتی ہے اور واصل حق ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ کے حضرات تلاش و جستجو کی خصوصیت سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ایسے اوصاف والوں کو ہی خلافت دیں وہ حضرات شرائط کے پابند نہیں ہیں لیکن رسولان حق کی نگاہ میں مقید رہتے ہیں۔ اس مشرب کے سرداروں میں سے ایک شاہ ابوالفتح ہدایت اللہ مسرت بنگال میں تھے جو حاجی پور میں مدفون ہیں۔ ان کا پہلا قدم فنا و مطلق ہوتا ہے اور دوسرا قدم عشق و تزکیہ و تصفیہ۔ یہ حضرات اپنے ہم مشربوں کو ان کی گفتگو سے پہچان لیتے ہیں۔ بیت

تا مرد ز خود فانی و گمنام نگرود

واللذرہ عشق سرانجام نگرود

نیز اس مشارالہ کی زبان سے کہ جس میں وحدت پر وہ بار احدیت

ہے معلوم کرے۔ بیت

تو مست خفتہ بناز و نعیم در بستر

بر آستان تو جز بندہ پاسبانے نہ

ایضا مراتب آمادہ بیعت و مرید صوری و معنوی کس طرح معلوم ہوں گے اور آمادہ بیعت کس طرح حاصل کریں گے اور کیا چیز اپنے اوپر لازم جائیں گے اور کیا نیت کریں گے۔ اچانک تصحیح ارادہ ظاہری و باطنی اور وجہ بیعت

کیا ہوتی ہے اس کا ذکر اُتدہ کیا جائے گا۔ اس کو سمجھ کر اس سے واقف و آگاہ ہو  
 کہ ابتدا میں ارادہ کرنا مرید کا کام ہے اور بیعت ہو جانے کے بعد اختیار پیر کے  
 ہاتھ میں ہے اور حیات پیر و سانی مرید شرط ہے۔ بیعت ہونے کے بعد اور اپنے  
 اختیارات سلب ہونے کے بعد اگر مرید اپنے پیر سے منحرف ہوتا چاہے تو  
 نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے پیر کے علاوہ دوسرے سو پیروں سے بھی بیعت ہو جائے  
 تو ان میں سے کسی کا مرید قرار نہ پائے گا وہ اسی کا مرید سمجھا جائے گا جس سے سب  
 سے پہلے بیعت ہوا تھا۔ اس کا رد و قبول اسی پہلے پیر کے اختیار میں ہے۔  
 بیعت کا حکم وہی ہے جو عقد نکاح کا ہے، لہذا صرف اتنا فرق ہے کہ وہ مجازی  
 ہے اور یہ حقیقی اگر پہلے پیر کی طرف سے روگردانی کرے گا تو مرتد طریقت  
 ہو جائے گا اور شریعت میں دو معبودوں کا عقیدہ کفر ہے ایسے ہی طریقت میں  
 دو پیروں کی موجودگی۔ بیعت وسیلہ طریقت ہے اور طریقت میں سوائے  
 ایک پیر کے کسی اور کی گنجائش نہیں کہ پہلے پیر سے منہ موڑ کر دوسرے کی جانب  
 رخ کر لے پیر تو صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ مرید صورتی کی پہلے یہ نیت  
 ہونی چاہیے کہ خود تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے مطابق اپنے شیخ کامل کی سیرت  
 کا نمونہ بن جائے اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دے اور پیر کے مکان  
 پر ایسی عقیدت و ادب کے ساتھ حاضری دے کہ اس کو اندسا اپنی آمد کی  
 اطلاع نہ کر لے بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے۔ جب وہ مکان سے  
 باہر آجائے اس وقت اس کی قدم بوسی سے مشرف ہو اس کے بعد نہایت  
 ادب کے ساتھ کسی سے پیر تک یہ پیغام پہنچوائے کہ بندہ کی نیت بیعت ہونے  
 کی ہے اور جب پیر اس کی بارگاہ توجہ ہو تو خود عرض کرے کہ حضور اس غریب کو  
 داخل سلسلہ فرمائیں اور درویش اس کی درخواست منظور کر کے اس

کے دونوں ہاتھ تہمتہ کرتے اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے اور مرید کرے استغفار و توبہ و نصح اور کلمہ طیب بایں حدیث مَنْ قَالَ لِأَبِيهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِإِحْسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ تَمِينٍ بار پڑھو اسے بعد میں چہار ترکہ کلاہ اور شکرانہ ارادت کے دو نفل ادا کر کے تمام حاضرین سے مصافحہ کا حکم دے اور بیعت کرتے وقت محرمات و مکروہات سے بچنے اور صوم و صلوة و نوافل و اتبارہ حکام شریعت کا عہد کر لے اور یہ بھی بتا دے کہ اگر عہد کو توڑا تو بیعت سے نکل جائے گا اور حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنے کی تاکید کرے۔ مزید دلیل بیعت و کلاہ کا تذکرہ آگے آرہا ہے۔ واضح ہو کہ ماں کے لیے اپنے نابالغ بچوں کو کسی سے بیعت کرانا جائز نہیں البتہ اس صورت میں ماں انہیں بیعت کرا سکتی ہے جب اس کے سولے ان بچوں کا کوئی اور ولی نہ ہو کیونکہ باپ تو ولی مطلق ہے وہ بھی انہیں مرید کرا سکتا ہے یا نہیں۔ محققین نے فرمایا ہے کہ یہ اخروی کام ہے باپ کی اجازت کو اس میں دخل نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ان کی جو مرضی ہو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ معلم شریعت نے اس مسئلہ کو نکاح پر قیاس کیا ہے۔ جب والدین لڑکی کا عقد اس کی نابالغی میں کرتے ہیں تو بلوغ کے بعد بھی وہی عقد برقرار رہتا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لیکن اس صورت میں جب کہ شوہر نامرد ہو تو وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ الصِّدَّانِ لَا يَجْتَمَعَانِ جب درویش شایان رہبری نہ ہو اور وارث نبی نہ بنا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے اور اگر کسی کو اس کے بچپن میں اس کے بڑے بھائی نے مرید کرا دیا ہو اور اس نے بالغ ہو کر اسے قبول کر لیا ہو تو یہ بیعت اس کی درست رہے گی ورنہ جس سے اس کا دل چاہے بیعت ہو جائے۔ اگر کوئی بالغ آدمی اصول بیعت سے اور

بعد میں اُسے معلوم ہو گیا کہ پیر صاحب عقل و معرفت نہیں ہے اور کوئی پیر کامل اُسے مل گیا کہ جس سے فائدہ باطنی اور معرفت حق تعالیٰ حاصل ہو جائے تو وہ شخص اب کیا کرے تو بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس کی پہلی بیعت رسمی تیمم کا حکم رکھتی ہے۔ اور درویش کامل حکم آب جب پانی مل گیا تو تیمم جاتا رہا اور بعض کہتے ہیں کہ بیعت رسمی ختم ہو جائے گی لیکن درویش کامل کو اپنا مرشد بنا لے اس قول پر سب کا اجماع ہے۔ ایضاً اگر کسی نابالغ کو چند آدمیوں نے کسی سے بیعت کرادیا تو یہ بیعت درست نہیں ہے بلکہ ہونے کے بعد اُسے اختیار ہے کہ اس بیعت کو باقی رکھے یا فسخ کر کے کسی اور سے بیعت ہو جائے۔ ایضاً اگر کسی کو جبراً لوگ کسی سے بیعت کرا دیں تو یہ بیعت صحیح نہیں جب تک وہ خوشی سے اسے منظور نہ کرے ایضاً اگر کسی صاحب تصرف بزرگ نے خود ہی ہاتھ پکڑ کر اُسے بیعت کر لیا تو مرید اس کی حکم عدولی ہرگز نہ کرے اور جو بھی کہلو اُسے یا کہے یہ اس کو قبول کرے اور مرید ہو جائے ایضاً اگر غلام بے مرضی مولایا کوئی عورت بے اجازت شوہر کسی سے بیعت ہو جائے تو یہ جائز ہے ایضاً مرید معنوی پہلے خدمت شیخ میں آئے اور سالک برسوں وہاں رہ کر پانی بھرے اور خشک سے جلائے کی لکڑیاں کاٹ کر لاتا رہے اور شیخ کے طور و طریق معلوم کر کے خود کو مقام حطب میں پہنچا دے جب شیخ کوئی نعمت باطنی خود عنایت فرمائے تو مدہوش و مست ہو کر داخل بحق ہو جائے گا جب ارادت میں آئے تو ترک العادۃ کر دے اور مراد شیخ کو بر لائے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کرے اور سلم تسلیم اس کا حال ہو جائے جو باتیں ارادت کے مناسب تھیں کم و بیش ان کی وضاحت ہو گئی اب مشائخ کے حالات کو سننا چاہیے کہ مشائخ کون کہلاتے ہیں اور کس منزل پر پہنچتے ہیں اور مرتبہ کیا ہے اور وہ اختیارات کیا

ہیں جو بیعت و خلافت سے حاصل ہوتے ہیں واضح ہو کہ اہلیت مشائخ جو استعداد باطنی ہے وہ ولایت کے ساتھ منسوب ہے اور یہی نسبت حقیقی ہے جو اس کی دستگیری کرتی ہے اور راستہ کھولتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے اور درویش کامل اُسے کہتے ہیں کہ جو ارکان ظاہر و باطن میں مستحکم ہو اور اقوال و افعال اور حالِ مُصْطَفٰی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راسخ ہو اور ہر سوزن شریعت سے تجا و زنا نہ کرے کہ جس قدر شریعت کے اتباع میں کمی رہے گی اسی قدر باطن میں کوتاہی واقع ہوگی الْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازُ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ وَالْمَجَازُ مَا هِيَ الْعِلْمُ كَيْتے ہیں کہ مجاز کو پاکر حقیقت کا پتہ چلتا ہے اگر معائنہ میں دیکھے تو اَلدَّهْدُ هُوَ اللّٰهُ كَمَا شَاهِدَهُ كَرِهَ اور اَلتَّصَوُّفُ كُنْهٌ اَدَبٌ كِي رُونَمَائِي ہوا اور کبر و نخوت و سر بلندی اور کینہ و عظمت و بزرگی و جاہ سے بیزاری کر نکل آئے مگر دورانِ مشغولیت لوگوں کے ساتھ ملنا ترک کر دے وَ كُنْ كَا حِدٍ مِّنَ النَّاسِ جِب كسی سے خالی وقت میں ملاقات کرے تو بزبان شیریں گفتگو کرے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيْمٍ ہر ایک کے ساتھ حُسنِ اخلاق سے پیش آئے اور اگر کوئی شخص کوئی بات دریافت کرے تو اس کو توجہ سے سُننے اگر جواب معلوم ہو تو جواب دے ورنہ خاموش رہے اور بتا دے کہ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے ایسا نہ کرے کہ صرف جہالت اختیار کر لے اور جو عظمت و بزرگی اس میں ہو اس کے باوجود انتہائی ناداری سمجھنے کے باعث اپنی حالت کو خراب کر کے لہا پس مشائخ پہن لے اور ہر ایک کی تعظیم کو اختیار کرے جب تک اس میں اس کی قوت ہو اور جب ضعیف ہو جائے تو اس طرح کی تواضع اور عجز و انکسار ضروری نہیں ہے ورنہ لوگوں سے ملاقات نہ کرے۔ اور التفاتِ مُجَبَّانَہِ اختیار کر کے شیخی و بڑائی کو درمیان میں نہ لائے اور یہ واضح رہے کہ صوفی جس



کی طرف توجہ کرتا ہے وہ توجہ حقیقی ہوتی ہے کہ غیر کا پردہ اس کی آنکھ سے اٹھا دیا گیا ہے دیکھ رہا ہے اور کبھی کبھی سُن لو کہ وہی وقت ہمیشہ اپنے آپ ہمہ اوقات مشغول دیدار رہتا ہے۔ کبھی کمال جمال سے لطف اندوز ہوتا ہے اور کبھی جلال عظمت میں مستور ہو جاتا ہے اور کبھی حضورِ صوری سے بے حضور ہو جاتا ہے اور کبھی مشاہدہ معشوق سے معمور ہوتا ہے اور کبھی نہ اپنی خبر نہ مخلوق پر نظر تمکین اس کے احوال ہوتے ہیں اور کبھی سکون و سُکریے اختیار اُسے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی ویسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا نظر آتا ہے پھر جب ہوش میں آتا ہے تو قرب نوافل سے یوں زبان کھولتا ہے **كُنْتُ بَمِعَةٍ وَبَصْرَةٍ وَكَلَامَةٍ** اور جب مدہوش ہوتا ہے تو قرب فرائض سے سنتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍ** اور عمر اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ وہ خود ہر دور میں متصرف ہوتا ہے۔ جب سالک کا یہ حال ہو گیا تو کیا اس کا ہاتھ اور اس کی زبان و سمع و بصر و علم و کلام سب اسی کے نہیں ہو جائیں گے جو اس نسبت کو حاصل کر چکا اُس نے نسبت حقیقی کو حاصل کر لیا **يَدُ اللَّهِ قَدْرُ أَيِّدِيهِمْ** کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہے۔ اگر ایسا شخص ہو تو اُس کو اقدائیت و امامت کے لیے قبول کریں۔ چاہے دوسری جگہ سے اُسے نعمت و بیعت پہنچی ہو اس کا دیکھنا اور اس کا اخلاص فائدہ پہنچانے کا جب کسی کو ایسے شخص سے عداوت و شکایت ہو جائے تو اس سے نفرت اختیار کی جائے۔ **لَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا** جو کچھ میرے فہم ناقص میں آیا وہ لکھا گیا سالک کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کر عمل کرے۔ ادب باطنی کی بجا آوری اور سند بیعت و طریق ارادتِ حق بسوئے خلق اور حق کارِ رسول کو خلق کی طرف بھیجنا اور حق کی جانب سے خلق کو عہد دینا اور افعال شیطانی سے باز رکھنا اور سند صحبت حضرت رسالتاب و اصحاب و تابعین و تبع تابعین الیٰ آخرہ اور

سرمنڈانا کہ مشائخ نے سرمنڈانے سے تین قسم کے قصر مراد لیے ہیں۔ (۱) تبدیلی  
 خصائل و مہمہ بحمدہ (۲) حق سبحانہ تعالیٰ کو کمال کے ساتھ ظاہر جاننا (۳) عظمت خدا و  
 رسول و اصحاب و اولیاء کہ یہ تمام حضرات شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 میں راسخ ہیں اور جو چیز کہ خداوند تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جس بات کا حکم دیا  
 ہے دونوں اللہ کے راستے ہیں اس لیے دونوں کی تکمیل کرے اور بیعت کرنا  
 اور استغفار کرنا اور کلاہ دینا اور نائب ہونا امیدوار بننا اور لباس انواع و اقسام  
 و لباس مخصوص خلافت اور خلیفہ بنا کر آگے بڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کا ظاہر ہونا ان تمام باتوں سے واقفیت پیدا کرے کہ ایک دور وہ تھا  
 کہ اس میں لوگ جہالت و ضلالت و کفر و شرک اور اصنام پرستی میں مشغول رہتے  
 تھے اور ایک مبارک دور وہ آیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب ازلی رسول محمد  
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر وہ عالم غیب سے اپنے کمال و جمال سے  
 برگزیدہ کر کے کمنڈ جذبہ سے ان کی روح اقدس اور جسم پاک کو حریم قدس  
 بہک رسائی بخشی اور کمال قدرت و ولایت کے ساتھ فایض بنا دیا اور فضل  
 کمال سے آراستہ کر کے خلق کی جانب مبعوث فرمایا اور آنحضرت خاص  
 و عام پر مفیض ہوئے۔ جبرئیل علیہ السلام جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے  
 آپ کے پاس آسمان سے قرآن لے کر نازل ہوئے اور جو کچھ حقیقت ماہیت  
 تھی جبرئیل کے ذریعہ قلب رسول علیہ السلام میں دفعہ پہنچا دی اور بتدریج  
 وحی آتی رہی اور اس کے ذریعہ آپ کو کائنات کی تمام خبریں معلوم ہو گئیں اور  
 کسی بات میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئی تو اس وقت لوگ حیرت و شہرت  
 سے یہ دریافت کرتے تھے کہ آپ بشر بھی ہیں اور رسول بھی تو آپ  
 فرماتے تھے اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَيُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْ اُنزِلَ عَلَيَّ لَوْ اَنَّ لِي  
 سُلْطٰنًا مِّثْلَ سُلْطٰنِ رَبِّي لَأَنْزِلُ عَلَيَّ الْغُرَابَ الْمَنْجُورَ لِيَاخُذَنِي  
 بِرَبْعَتَيْهِ فَيُطَوِّقُنِي فَيُنزِلُنِي فِي بَلَدٍ مِّنْ اَرْضِ عَرَبٍ لَّعَلَّيْ  
 كُنُّ اَرَبًا مِّثْلَ اَرَبٍ اَوْ اَنْزِلُ عَلَيَّ الْغُرَابَ الْمَنْجُورَ لِيَاخُذَنِي  
 بِرَبْعَتَيْهِ فَيُطَوِّقُنِي فَيُنزِلُنِي فِي بَلَدٍ مِّنْ اَرْضِ عَرَبٍ لَّعَلَّيْ  
 كُنُّ اَرَبًا مِّثْلَ اَرَبٍ

لیکن اور لوگوں سے جب تحقیق کر لی تو آپ کی رسالت کو قبول کیا تو لہ تعالیٰ ہُوَ الَّذِي  
 ارْسَلَنَا بِرَسُولِهِ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ  
 كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَهْدٌ لِيَسْمَعَ كَاطَرِيْقَهُ اُوْرِبَاطِلُ كُو  
 مٹانا مخبر صادق ہو کر ابتدا سے انتہا تک خاص و عام کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا  
 قبول دعوت سے ممتاز ہو کر عہد واثق و اقوال میں شامل ہو گئے اور استقامت پا  
 کر آنحضرت کو اپنی حجت منہن و برہان حق جانا تو لہ تعالیٰ اَلَا اَعْمَدُ اِلَيْكُمْ  
 يٰبَنِي اٰدَمَ اِنَّ لَاقْتَبُدُّوْا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُوْعَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَاَنْتُمْ  
 اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ طریق صحبت اصحاب حضرت رسالت  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے حاضر تھے اور ہر قسم کی کھوٹ سے پاک تھے  
 وہ ہر دم و ہر قدم پر اہدانا الصراط المستقیم پر استقامت کے خواہاں تھے اور  
 ہر کام میں حق تعالیٰ سے ہی استعانت کرتے تھے۔ دین پاک و ملت خاص کے  
 ساتھ مختص تھے اور خطرات غیر سے گریز کرتے تھے فَاِنِّيْ اِلَى اللّٰهِ هُوَجَلْتُمْ  
 تھے رسول علیہ السلام کی محبت و مودت صحابہ کے دلوں میں اتنی تھی کہ غیر کی  
 گنجائش نہ تھی زُوْغِبًا شَرُوْهُ جَبًا محبت زیادہ ہی ہوتی رہی مَن رَاْنِيْ  
 فَقَدْ رَاَ الْحَقَّ كَمَا شَاهَدُوْهُ کرتے رہے ہر لمحہ مومن کے دل میں ایمان کا اضافہ  
 ہوتا ہے الْاِيْمَانُ الْكَامِلُ حَسَنَاتُ الْاَوْبَرِ اِرْسِيَّاتُ الْمُقَدَّرِ بَيْنَ  
 وَرَكَدْرِهِمْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ جَمِيْعِ مَا كَبُرَ اللّٰهُ قَوْلًا وَّفِعْلًا وَّحَاضِرًا  
 وَنَاظِرًا وَضَمِيْرًا ان کی گذر پر ہے اور ہر لمحہ حسن و بکر کا نزد دل ہے ہر وقت  
 وارث ولایت کی صحبت اثر کر رہی ہے اور تمام حالات میں حاضر وقت ہے۔  
 استغفار و توبہ کا بل وقت ہے اور ہر لحظہ شمول معرفت ہے تو لہ تعالیٰ ہُوَ الَّذِي  
 اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزِدَّ اٰدَآءَ اِيْمَانًا اِلَى التَّوْبَةِ

وَالْمُغْفِرَةَ وَالْغُفْرَانَ طریق سر کے بالوں کے تراشنے کا کہاں سے نکلا اور  
مشائخ کا اس فعل کے اختیار کرنے کا باعث کیا ہے۔ یہاں چند نکتے ہیں ایک یہ  
کہ جب لوگوں کے سروں پر بال ہوتے ہیں تو اکثر ان کا انتفات بالوں کے سنوارنے  
کی طرف رہتا ہے تو چند چیزوں کی جانب توجہ مرکوز رہتی ہے اور جب بال نہیں  
ہوتے تو جب غسل کی حاجت ہوتی ہے تو آسانی سے سر اور تمام جسم پاک ہو جاتا  
ہے دوسرے یہ کہ ایام جہالت میں جس سے مذاق کرتے اس کے سر کجاں تراش  
دیا کرتے تھے اور بال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شان فخر و رعب تصور کیا جاتا  
تھا اس لیے بھی ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور قرآن میں لائنا فوا آیلہ ہے اس  
نے ایک عظیم راز معلوم ہوتا ہے کہ بال مندانا کمال بندگی و عظمت ہے اور مشائخ  
جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو اس وقت زلف و پیشانی کے چند بال کتر لیتے ہیں  
اور پڑھتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اور تمام آرائش و اسراف  
بدنی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور حلق و قصر مرید صوری نہیں کرتے مگر حکم کی بجا آوری  
ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کو  
حسنِ کامل سے سرفراز فرمایا پس اس سند کو سر بلند کیا ارسل جبریل الی محمد بن  
المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے حکم سے خلق کو برداشت کیا ہے قولہ تعالیٰ  
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُخَلِّقِيْنَ رُوْٓسُكُمْ وَ مَقْصِرِيْنَ اِلَآئِحَا فُوْٓسِ  
فَعَلِمُوْا مَا لَوْ تَعْلَمُوْا فَعَجَلْ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتَحَاقِدْ يَبَّآ تَبْدِيْلِيْ خِصَالِ  
ذمیرہ کی شامل حمیدہ سے ملحوظ خاطر رہے اور یہ واضح ہو کہ جب تک شعور  
قبلی پیدا نہ ہو ذمیرہ اور حمیدہ میں امتیاز معلوم نہیں ہوتا۔ ظہور کائنات سے  
پہلے بھی خدا موجود تھا اور بعد ظہور بھی موجود ہے۔ اس کی ذات ایک ایسا

راز ہے جس کے دو رخ ہیں جلال اور جمال۔ تجلی ذات اور اس کی صفت جلال پر وہ جمال میں ہے اور جمال پر وہ جلال میں پہنچا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں فنا ہو کر بندہ جب بقا اور قرب خاص کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی برائیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بندہ حق تعالیٰ کو اپنی ہستی میں ظاہر دیکھتا ہے تو ہر حال میں اُسے یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔

قوله تعالیٰ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَبِزُكْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْكَوَيْلُوبَانِ اللَّهُ يَبْدِلُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

بالکل عیاں ہے تو خدا اور رسول خدا و اصحاب کرام و اولیائے عظام کی اطاعت و محبت اختیار کرو کہ بغیر وسیلہ کے خدا کو پانا بہت مشکل ہے۔ رسول کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کو پہنچانا اور صحابہ کے وسیلہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور اولیاء کے وسیلہ سے ولایت صحابہ و رسول معلوم ہوئی۔ اگرچہ شرع راہ مستقیم ہے اور اس میں امر و نہی کا واضح بیان ہے لیکن صحبت میں بڑی تاثیر ہے خلاصہ صحبت صحبت رسالتاب تھی جس کے اثر سے متاثر ہو کر صحبت صحابہ کرام میں استقامت پیدا ہوئی۔ ۱۰ صحابی کا لقب ہوا یا یہما اقتدیتم امتدیتو رہبری کی اور اس کے بعد ہدایت کی ذمہ داریاں علما کے سپرد ہوئیں قیامت تک وہی یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس طرح خدا و رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح ولی وقت کی اطاعت کرے اور اس کے ظاہر ہوتے ہی اس کے سلسلہ کی سلک میں منسلک ہو جائے۔ قوله تعالیٰ اذ تَبَرَّءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَذَّةً فَنَتَّبِعُ مَنِ اتَّبَعُوا لَمَّا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرْهَمُهُمْ

اللَّهُ أَعْمَلُكُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِبِخَارٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ  
 اور دل میں خیال کر سے کہ میں نے عہد کیا ہے خدا و مصطفیٰ و اصحاب و اولیاء  
 سے اور اس آیت کو اپنے سفر باطن کے لیے زاہد راہ بنائے فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ الْأَوْلِيَاءُ هُمُ اتَّوَلَّوْا طَرِيقَ مَعْرِفَتِ خَاصٍ وَعَامٍ اَللَّهِ كَيْ حَكْمٍ  
 سِ رَاهِ حَقِّ مِ يَنْ خُودِ كُ فِدَا كُ رُ وِ يَنَا اُ وِ مَعْرِفَتِ ظَاهِرِي حَكْمِ خُ دَا وِ نَدَقِ يَهْ اِ يَهْ اِ يَهْ  
 اَلدِّ يَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْاِسْلَ اَمْرُ زَبَانٍ سِ اَمْرٍ اَر اُ رُ وِ لٍ سِ نَصْدِ يَنْ كُ رُ نَا اِس  
 كِ بَعْدِ يَدْ خُلُوْنٍ فِ يْ دِيْنِ اللّٰهِ وَاُ رُ هُ اِسْلَامٍ مِ يَنْ اَكْ كُ نِ اُ وِ مُخْلِصِيْنَ  
 لَهٗ الدِّ يَنْ هُوَ كُ نِ كَلِمَةُ شَهَادَتِ كِ رُ وْحَانِي عُنْ سِ لٍ سِ يَ اَكٍ هُوَ كُ رُ صَحَابِ  
 كُ رَامِ حَضْرَتِ رَسَالَتَابِ سِ مَصَافِحِ كُ رُ تِ اُ وِ اِس اَنْظَارِ مِ يَنْ رِهْتِ تَهْ  
 كِ اَللّٰهِ كِ حَكْمِ پِ رِ اِ پْنِي جَانِ وِ مَالِ كُ وِ رَاهِ خُ دَا مِ يَنْ قُ رْبَانِ كُ رُ وِ يَنْ اُ وِ اِس كِ  
 بِلِ سِ حَقِّ تَعَالٰئِ سِ عَاقِبَتِ كَا سُ وِ اُ كُ رِ لِيْ سِ بِلِ هُوَ اَحْيَاءُ لَوْ يَمُوْنُوْنَ  
 سِ فَاُ دِ هُ حَاصِلِ كُ رُ تِ مِ يَنْ اُ وِ رُ جَنَّتِ مِ يَنْ اِ پْنَا كُ فِ رُ بِنَا تِ مِ يَنْ اُ وِ رُ جَسَامِيَّتِ وِ  
 مَادِيَّتِ سِ نَكْلِ كُ رُ بِيْعَتِ حَقِيْقِي مَاصِلِ كُ رُ تِ Mِ يَنْ . بَشَرِيَّتِ سِ بَغِيْرِ نَكْلِ  
 حَقِيْقَتِ كَا كَامِ نِهِيْ سِ بِنَا اُ وِ رِ سِ يَنْ بَ Kَامِ كَا مِيَا بِلِي سِ كُ رِ يَنَا Sِ مِ يَنْ اِسْ مِ يَنْ  
 يِ سِ چِيْنِ وِ سَكُوْنِ حَاصِلِ هُوَ كِ يَا اُ وِ رُ مَعْرِفَتِ بَاطِنِي جُو خُ دَا كِ رَاهِ Sِ اِس كِ بِلِ  
 Mِ يَنْ يِ Sِ مِ يَنْ اِ يَنَا چَا Hِ Sِ Kِ اِس رَاهِ كِ نَسْبَتِ خُ دَا ئِ تَعَالٰئِ Sِ Nِهِيْ Sِ Bِلِ  
 اِس Sِ مُرَادِ جِ هَادِ اَكْبَرِ Hِ نَفْسِ وِ شَيْطَانِ Kِ Sَا Tِ Hِ . پِ رِ كِ تَدْبِيْرِ وِ رُ نِ هَا ئِي  
 Sِ Sَا لِكِ Kِ لِيْ Rَاهِ Sِلُوْ كِ Kَا وِ رُ وَا زِ هُ بِنْدِ شُدِ Hِ Sِ پِ رِ خُ صُوْ صِيَّتِ وِ  
 اِنْخِصَاصِ Kِ پِ Rِ Sِ Mِ يَنْ Kِ هَلِ جَا Tَا Hِ Sِ اُ وِ Rُ Sَا لِكِ اِس Mِ يَنْ دَا خِلِ Hُوَ جَا Tَا  
 Hِ . جُو يِ Nِهِيْ Sِ جَا Nَا Tَا Hِ يَّتِ حَقِّ Kَا حَقِّ اُ دَا Nِهِيْ Sِ Kُ رُ Sَكُنَا اِسْ Sِ مُسَلِّ

بیت: معشوق مرا گفت کہ بنشین بہ در من

مگذار در دل ہر کہ ندارد سر من

سوائے اختیار کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور جو کچھ آلا بٹش ماسون اللہ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور خدا کے عشق میں ایسا متفرق ہو جاتا ہے کہ اُسے اپنی اور دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ مَن تَفَكَّرَ سَاعَةً أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً وہ یہ راہ اختیار کرتا ہے اور استغراق رب روحی و رب الارباب ایسا ہوتا ہے کہ صَادَ الْعَبْدُ فَاِنِيًا وَالْحَقُّ بَاقِيًا ہو گیا اور دوسرا حُسن ظاہر ہوا اسی معنی کے لیے کسی نے کہا۔

بیت: ۱۔ کشتگانِ خیمہ سلیم را

ہر زماں از غیب جانے دیکر است

ان سالکوں کی خرید و فروخت ان کی اپنی ذات سے تنجا و زکر کے معرفت تک جا پہنچی۔ انہوں نے تمام احکام بجا لا کر بشریت سے نجات پائی اور عبادت و حمد و ثنا سے روحانی زندگی ملی تو لہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ اشْرٰى مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِيْ الشُّرَاةِ وَالْاَوْثَاقِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهِ مِنْ اللّٰهِ فَاسْتَبْرُوا وَاَبْيَعِكُمْ اَبْدِيًّا بِاَيْتُورِبِهِ وَذٰلِكَ هُوَ النُّوْزُ الْعَظِيْمُ التَّابُونَ الْعَابِدُونَ وَالْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاُمِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

## طریق بیعت

کہ خاص و عام پر ثابت ہے اور توبہ و استغفار کرنا اور کلاہ دینا ان باتوں کو اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا حکم تاکید کامل کے ساتھ ہے اور قطعی سے ثابت ہے۔ جب جنگ اُحد میں لشکر اسلام کو شکست ہوئی تو اُحد کی نہایت چُست و چالاک اور بہادر صحابہ نے اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دیں اور لباس شہادت پہن کر اپنی لگام دنیا سے آخرت کی طرف موڑ کر عالمکوت میں پہنچ گئے اور حضرت رسالت نے تعلیم امت کے لیے شکست تسلیم کی اور کا فر غالب آئے، منافق خوش ہوئے اور کافروں کی فوج میں بڑھے۔ صحابہ میں بہت خوف و ہراس تھا کہ یا رب آخرا ب کیا ہوگا تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ صَاحِبِ خَشْيَةٍ أَوْ نَهْوٍ أَوْ رَأْيٍ وَلَا تَتْلُو شِعْرًا مُنْفَرِدًا وَقَدْ عَلِمْتَهُ خَفِيًّا وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اس پر زور دینے لگے کہ کافروں سے جنگ ضرور کی جائے ویر نہ لگے اُسی دوران جب اُمیہ بن خلف فوجی دستہ ہمراہ لے کر بظاہر شکر اسلام کی مدد کے لیے آیا تھا تو اسی وقت اس سے غداری کا خطرہ تھا لیکن میدان جنگ میں اُمیہ اپنی فوج لے کر سب سے آگے کافروں کے مقابلہ میں آیا اور یہ منافق تھوڑی دیر بعد میدان چھوڑ کر مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ نکلا جس سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان میں سے بھی کچھ فرار ہو گئے آخر صحابہ کو سکوت ہوئی جبرئیل علیہ السلام بیعت خاص و عام کا حکم لے کر آئے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ بَدَأَ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ بَيْعَتَهُمْ فَكَرِهْتُمُوهَا وَتَمَّتْ لَكُمْ فِي يَوْمِئِذٍ بِرِئَاسَةُ أُولَئِكَ سَمِعْتُمْ أَيْدِيَهُمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى رِجْلِ النَّبِيِّ فَوَاضَلَهُمْ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



توبہ و تلقین کی یا ایہما الذین آمنوا تو بوا الی اللہ توبہ نصوٰح حدیث میں ہے التداۃ توبہ و التائب من الذنوب کمن لا ذنب لہ وقولہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وقولہ تعالیٰ واری لغفار لمن تاب وامن و عمل صالحا ہر ایک نے توبہ کی پھر چاروں یار کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بیعت ہو چکے ہو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مصافحہ تھا اور اس وقت تک حکم بیعت نازل نہیں ہوا تھا اس کے بعد حضور نے ان کو از سر نو بیعت کیا اور کلاہ عطا کی اور بعض کہتے ہیں کہ کلاہ چہار ترک کی عطا فرمائی۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کلاہ کنبذی عنایت کی کہ اس میں زہ اور ترک کے گوشے نہیں ہوتے اور اسے اول سے تیار کرتے ہیں اور حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو دو ترک کی کلاہ مرحمت فرمائی جو بڑی سیپ کی طرح ہوتی ہے اور حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو کلاہ سر ترک کی عنایت فرمائی اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کلاہ چہار ترک کی عطا کی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں یاروں نے فرمایا کہ رات کو یہ ٹوپی سر کے نیچے رکھ کر سونا صبح کو جو بات ظاہر ہو اس کو چھپانا چنانچہ سب نے حضور کی ہدایت پر عمل کیا بعض یہ کہتے ہیں کہ چاروں حضرات حضرت علی کے گھر جمع ہو گئے واللہ اعلم بالصواب اس کے بعد حضرت رسالت پناہ نے حکم فرمایا کہ تم بھی ایک ایک کر کے اپنے تمام تابعین کو میری جانب سے بیعت کرنا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہ حکم اہل ولایت کے لیے مخصوص ہے جن کی سند اور سلسلہ خلافت

صحیح ہو اس کے بعد حکم فرمایا کہ بیت وسیدہ ظاہری و باطنی ہے جو عہد و اٹق کے ساتھ مستعد ہو کہ کل جنگ کرنا ہے یعنی نفس و شیطان کے ساتھ جہاد اکبر کہ وہ تاک میں لگا رہتا ہے اور یہ جنگ فی سبیل اللہ کافروں سے ہے اور یہ خدا کے امر سے دونوں طریق سے ثابت ہے اس نیت سے فاتحہ پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ رَبَّنَا بِنِعْمِ الْوَاكِهْمِ الْوَالرَّحْمٰنِ عَلَیْنَا بِسَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَبِشَارَةِ الْاٰیْمَانِ الْوَالرَّحْمٰنِ عَلَیْنَا بِعَفْوِ الذُّنُوْبِ وَالْعِصْیَانِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ بِالْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ بِالْعُبُوْدِ وَیَتَرِ فِیْ كُلِّ الْاَوْحْسَانِ وَرِیَاكَ نَسْتَعِیْنُ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَوْعْدَاِ وَالشَّیْطَانِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ عَلٰی الشُّوْحِیْدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْاٰیْمَانِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ بِالْهُدٰی اِیَّ اِلٰی سَبِیْلِ اللّٰهِ الْیُسْبٰنِ غَیْرِ الْمَذْمُوْبِ عَلَیْهِمْ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْبِدْعَةِ وَالطُّغْیَانِ وَلَا الصَّالِیْنَ مِنْ الشِّرْكِ وَالْكَفْرٰمِیْنِ اِجَابَةً مِنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ شَوْفًا اِلٰی لِقَاءِ الرَّحْمٰنِ طَرِیْقِ لِبَاسِ كُوْنَا كُوْنِ اَوْ عَطْلٰی خِلَافَتِ ہر چہار یار اور خلق کی نظروں میں عزت پیدا کرنا اور تمام احوال مع قصہ معلوم کرنا چاہیے۔ صحیح کو بیت المال سے غلہ لباس اور ہتھیار جو بدن کی حفاظت کریں تمام شکر کو تقسیم کیا اور طرح طرح کے کپڑے ہر شخص کو دیئے اور خلفائے راشدین کو پیرا ہن محبت کہ عرب میں لوگ پہنتے تھے۔ اس لباس کام نامہ یثمدق و اشہاد مطلق ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہناوا تھا جب استعداد جنگ پیدا ہوئی تو کفار کی طرف متوجہ ہوئے۔ امید نے سب سے پہلے جا کر ان سے جنگ شروع کر دی اس کے بعد اس کی تمام شکر اسلام نے مدد کی اور فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ایضاً لباس

پہنانے کا ذکر اگر خلافت کے ساتھ مخصوص ہے تو اس میں کیا راز ہے پہلے  
 مثال کو سمجھنا چاہیے بعد میں یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ جب بادشاہان حجازی  
 کسی کو کسی کام پر متعین کرتے ہیں تو پہلے خلعت پہناتے ہیں اس کے بعد حکم  
 دیتے ہیں اس شخص کو نوازی لینے کا علم خلعت سے ہوتا ہے کہ فلاں پر بادشاہ  
 کی نوازش ہوئی ہے اور اس کو خلعت عطا کی ہے جب بادشاہ سے وہ خلعت  
 لے کر رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق اپنی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے  
 اور تمام رعایا بے اختیار دست بستہ اذن لے کر اس کے پاس  
 حاضر ہوتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے۔ حق تعالیٰ نے خاص لباس  
 جو حضرت رسالت کے لئے مخصوص تھا انواع و اقسام کے لطف و کرم  
 کے ساتھ اور چند خاص دوسری نعمتیں جو آپ کی شایان شان تھیں اور کسی  
 اور کو نہ ملی تھیں آسمان سے خواجہ کائنات و خلاصہ موجودات پر اتاریں اور  
 انداز سے اتاریں کہ کوئی ان سے بے خبر نہ رہا قولہ تعالیٰ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ  
 مِّنْ دُونِ خُضْرٍ وَّاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ مُّسْوَرٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّسَقَاهُمُ  
 رَبُّهُم مِّنْ دُونِهَا مَاءً طَهُورًا دوسری ماہیت کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تمھک نہ  
 جاؤ۔ اول حق تعالیٰ نے روح مثالی کو حقیقت مثال کے ساتھ خلق اَدَاوَعَلَى  
 صُورَاتِهِمْ شُكْلٌ وَصُورَتِ مِثَالِ بَشَرِي كِي ہڈیاں اور  
 گوشت پرست بطور انعام عطا کیا، لباس ناسوتی و حیوانی پہنایا اور مثال کو  
 وجود میں لایا خلوت خانہ ملا تو پہلے خلعت جلو پہنائی وَارْتَقَىٰ بَاعِلٌ فِي  
 الْاَرْضِ خَلِيفَةً نَّامٌ پاپا اجسام قبائے ارواح ہو گئے اور اجسام نے ارواح  
 سے قوت حاصل کی اور دونوں کا ایک رنگ ہو گیا اور ایک ہی حکم حاصل ہوا  
 اور احناء جسا دنا اور احناء فرق کیا ہے حکم ایک اور ماہیت و وسعتی

إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ هَيْئَةً كَهَيْئَةِ النَّاسِ  
 وَ لَكِنْ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ وَلَقَدْ پوشیدہ نے عیثیت حاصل کی تو ظاہر ہو گئی  
 اور جسم کے گھر میں رہنے لگی اس حکمت سے بہت سی حکمتیں اس کی آرائش تو  
 پائیں۔ یہ لباس گھر ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا کبھی لباس شاہی پہنتا ہے اور  
 کبھی کلاہ فقر قولہ تعالیٰ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُمْ  
 مِنْ جُلُودِكُمْ وَالْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
 مِنْ أَصْوَابِهَا وَأَذْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

اس میں اقامت کر کے اور پہچان کر صبر و قناعت و ربط ایمان کامل کے ساتھ  
 صلاح و فلاح پائی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا  
 وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جو سند صحیح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
 واصحاب کرام و مشائخ عظام سے اس کی ہر نوع کا ذکر کامل کیا جا چکا اس  
 اس راہ سلوک میں طالب کے قدم رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرشد  
 راہ کو پہچانے۔ درویشی ارادت ہے اور ارادت کے دوران میں ایک  
 پیر کی جانب سے اور دوسرا مرید کی طرف سے۔ جب طالب صادق کسی  
 درویش کے دامن ارادت سے وابستگی کا خواہاں ہو اور اس سے بیعت  
 ہونا چاہیے تو وہ ایسے پیر کو تلاش کرے جو شریعت و طریقت و حقیقت  
 کے علوم کا عالم کامل ہو۔ اگر مرید کو ان علوم میں کہیں کوئی مشکل پیش آجائے  
 تو وہ اپنے پیر کامل کی مدد سے اس مشکل کو حل کر سکے گا۔ جب کسی کو ایسا پیر  
 مل جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا دست ارادت اس کے دامن سے کبھی  
 جدا نہ کرے۔ اور جب یہ مرید درویش کی نظر میں صحیح طور پر آجائے گا تو وہ  
 اس کو قبول کر لے گا۔ اسے مجب آگاہ ہو کہ ارادت کسی پیر کے جسم و صورت

یہ موقوف نہیں کیونکہ یہ دونوں موت کا مزہ چھکیں گے اور ایک دن گل کر ریزہ  
 ریزہ ہو جائیں گے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهٗو مَيِّتُوْنَ۔ وجود ظاہری جسمانی میں سوز و  
 ماز اور زیب و زینت پیدا کرنے والا کوئی اور ہی ہے اس بات کو ایسے سمجھو  
 کہ مقناطیس ایک پتھر ہے اور زنگ لگا ہوا لوہا یہ دونوں چیزیں کشیف ہیں اور  
 بظاہر یہ بات بالکل معلوم نہیں ہوتی کہ ان میں کیا مناسبت ہے۔ جب مقناطیس  
 متحرک ہوتا ہے تو لوہا بھی اُس کی کشش سے حرکت کرتا ہے اور ذی روح ہو  
 جاتا ہے۔ اگرچہ پیر و مرید ایک ہی قبیلہ کے ہیں لیکن پیر میں ایک ایسی  
 اہمیت ہے کہ مرید کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور راہ سلوک اس کے لیے کھولتی  
 ہے معلوم ہونا چاہیے کہ مرشد جس طرح حکم کرے مرید اس پر اسی طرح عمل  
 کرے اور اس کے بعد غسل طریقت کرے قَالَ اِمَامُ النَّاطِقِ جَفِزُّ  
 بِنُ مُحَمَّدٍ نَوَيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ غَسْلَ الْفُقَرَاءِ مِنْ جَمِيعِ اِسْتِنَالِ  
 الذُّنُوْبِ تَقَرُّ بِاِلٰهِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَرَمُوْلِهٖ لٰكِنْ جَبَّ اَسْطَحَ مَسْتَحَقَّ  
 طَرِيقَتِ هُوَ جَائِئٌ تَوَكَّبَهُ الْاَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِيْ اَشْرَفَ  
 قُلُوْبَ الْاَوْلِيَاءِ بِنُوْرِ تَجَلِّيَاتِ جَمَالِهٖ بِتُرْكِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَقَالَ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ تَذَكُّ الدُّنْيَا رَاسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَمَا نَعْبُدُ اِلَّا يَآهُ  
 قَوْلُهُ تَعَالٰی قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَوْ تَوَقَّنْطُوْا  
 مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ  
 الرَّحِيْمُ چار پاروں میں سے طالب جس کے سلسلہ سے منسلک ہو تو  
 اسی کے طریقے اختیار کرے۔ سرور ہر دلی حضرت علی ہیں چنانچہ ارشاد  
 ہوا کہ وَاشْهَدُ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ اَسَدُ اللّٰهِ الْغَالِبُ  
 مَوْلَانَا وَرَسُوْلُنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ اِمَامًا حَقًّا مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ وَرَسُوْلًا

وَمِنْ بَعْدِهِ سِلْسَلَةُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكُنَيْلِ ابْنِ زِيَادٍ وَخَوَاجَةِ  
 حَسَنِ الْبُصَيْرِيِّ إِلَىٰ آخِرِهِ كَمَا فِي خُلُقَانِ مَا بَعْدَ هُنَا أَدْرَانِ كَالسَّلْسَلَةِ مَعْرِفَتِ  
 هُوَ أَدْرَانِ نَضْرَتِ سَيِّدِ الطَّالِفِينَ أَبُو الْقَاسِمِ خَوَاجَةُ جَنِيْدُ تَمَكُّدِ بَهِنِجَا. هَضْرَتِ وَاللَّانِي ط  
 هَضْرَتِ مُحَمَّدِ مَصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَزْمَرِ نَوَاجِيَانِي كَامِلِ كِيَا أَدْرَانِ سَيِّدِ  
 كِي اَقَامَتِ فِي تَقْوِيَتِ پِيْدَا هُوِي اُو رِي سَلْسَلَةُ اَاج تَمَكُّدِ بِرِ قَدَمِ پِل رُطَا  
 اُو رِ پِلْتَا رِهِي كَا. شَجْرَةُ وِلَايَتِ جُو اِيَكِ عَظِيْمِ دَرَخْتِ كِي صَوْرَتِ فِي نَمُوْدَا رِهِي  
 اِس كِي تَحْمُّدِ سَيِّدِ اُو رِ اِس كِي تَنِي اُو رِ شَاخُوں پَهْرِ شَاخُوں كِي شَاخُوں كَا سَبْ  
 بِيَا نِ كِيَا جَا چَكَا اَصْحَابِ تُو رِ سَا تَحَابِ كِي پِيچِي اُو رِ اِهْلِ وِلَايَتِ اَصْحَابِ وَ مَصْ  
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي پِيچِي فِي اُو رِ اِس كِي بَعْدِ اَنِي وِلِي تَمَامِ مَشَا  
 اِن كِي پِيچِي رِهِي كَر اَنِي دَالِي نَسْلُوں كِي پِيشَوَانِي وِرِ هِنْمَانِي كَرِي كِي. سَا لِكِ  
 اُو رِ اِس كِتَابِ كَا هَرِ اِيَكِ مَطَالَعَةِ كَرِنِي وَا لَارِ وِرَا نِه اِس كُو مَطَالَعَةِ فِي رَكِي  
 اُو رِ اِنِي حَالِ كُو اِس كِي هِدَايَاتِ كِي مَطَابِقِ بِنَانِي. جُو قَوْلِ مَوَافِقِ نَه  
 اَنِي اُسِي چِھُوڑِ دِي اُو رِ جِس سِي فَيْضِ نَمَايَاں هُو تَا هُو لِكِي لِي كِي بَعْدِ  
 فِي اَنِي وَا لُوں كِي كَامِ اَنِي كَا اُو رِ اِنِي حَالِ قَدَمَا رِ كِي حَالِ كِي مَطَابِقِ  
 كَرِي تُو اِس كَا حَالِ دُو سَرُوں كِي حَالِ كِي اَصْلَاحِ كِي يِي نَمُوْنِ بِنِ  
 جَانِي كَا اَخْرِي مَنْزِلِ يِي هِي اُو رِ اَبْتِدَائِي كَا رِ سَلْسَلَةِ مَعْرِفَتِ كِي تَمَامِ  
 كَرِيُوں كُو اَپْسِ فِي مَلَانِي رَكِي نَا هِي اُو رِ وَا صِخِ هُو كِي اِب تَمَامِ شَجْرُوں كُو  
 تَفْصِيْلِ كِي سَا تَه اُو رِ نِهْمَايَتِ صِيحِ تَرْتِيْبِ سِي مَعْرِضِ تَحْرِيْبِ فِي لَايَا  
 جَا تَا هِي.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## شجرہائے خلافت

① شجرہ خلافت پیران شطار خاندان عشقہ آتش خارا یہ ہے۔ نسبت فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھگت سلطان الموحیدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس اللہ سرہ العزیزان کی نسبت بھگت شاہ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ قاضی الشطاری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ شطار قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد عارف قدس سرہ سے ان کی نسبت شیخ محمد عاشق قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ خداقلی ماوراء النہری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت ابوالمنظف مولانا ترک طوسی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ خواجہ اعز عشقی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ محمد مغربی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سلطان العارفین خواجہ پایزید بسطامی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین شاہ مرداں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت رسالت پناہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

② شجرہ خلافت پیران چشت قدس اللہ اسرارہم نسبت فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھگت سلطان الموحیدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ

ان کی نسبت حضرت شاہ ابوالفتح ہدایت اللہ سر مست قدس سرہ سے ان کی نسبت  
 حضرت شیخ قاضی الشکاری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد بن غیاث  
 قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ معین الاسلام قدس سرہ سے ان کی نسبت  
 حضرت شیخ حسام الدین مانپوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ نور  
 قطب عالم قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ علاؤ الحق لاہوری قدس  
 سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ اخی سراج الدین عثمان اودھی قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت سلطان الصوفیہ شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ سے ان کی  
 نسبت حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ  
 قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سلطان الہند خواجہ  
 معین الدین چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ عثمان مارونی قدس  
 سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت خواجہ مودود چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
 خواجہ یوسف چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ محمد چشتی  
 قدس سرہ ان کی نسبت حضرت خواجہ احمد قطب الدین چشتی قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت خواجہ ابواسحاق چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
 خواجہ ممشاد ابواسحاق علوی دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ  
 ہبیرہ البصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی قدس  
 سرہ سے ان کی نسبت حضرت سلطان ابراہیم اودھم قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت خواجہ فضیل بن عیاض قدس سرہ سے ان کی نسبت  
 حضرت عبدالواحد ابن زید قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حسن  
 بصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المؤمنین شاہ مرداں علی ابن ابی



طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم سے۔

③ ایضاً شجرہ سلافت پیران چشت قدس اللہ سرہم نسبت فقیر حقیر حاجی حمید  
عرف شیخ محمد غوث بھارت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ  
ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
شیخ قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت میراں سید زاہد قدس سرہ  
سے ان کی نسبت حضرت شیخ عیسیٰ جوہنوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
شیخ فتح اللہ چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ صدر الدین شہاب  
ناگوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ نصیر الدین محمود اودھی  
چراغ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء  
قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ فرید شکر گنج قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت خواجہ قطب الحق والدین قطب دہلی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت خواجہ عثمان بارونی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت حاجی شریف  
زندانی سے ان کی نسبت حضرت خواجہ مودود چشتی قدس سرہ سے ان کی  
نسبت حضرت خواجہ یوسف چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ  
محمد چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ احمد چشتی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت خواجہ ابواسلمی چشتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
خواجہ ممشاد ابواسحاق علوی دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
خواجہ ہبیرہ البصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ صدر الدین  
عذیفہ مرعشی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سلطان ابراہیم ادہم

یعنی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ فضیل بن عیاض قدس سرہ ان کی نسبت حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین شاہ مرداں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور ان کی نسبت حضرت رسالت پناہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

④ شجرہ خلافت پیران فردوس قدس اللہ سرار ہم نسبت فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بک حضرت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت شیخ ایوب کاہی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد بہرام بہاری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ حسن ابن حسین مغربی شمس بلخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ منظر شمس بلخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد تیکھی منیری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ عین الدین فردوس قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت رکن الدین فردوس قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سیف الدین باخرزی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت نجم الدین کبراہی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ضیاء الدین ابونجیب قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ وچہبہ الدین ابو حفص قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد ابن عبداللہ المعروف بعمویہ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ احمد اسود دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ ممشاد علوی دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ جنید

بند اوی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سبزی سقطی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت معروف کرخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام علی  
موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے  
ان کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام  
محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ  
سے ان کی نسبت حضرت امام حسین شہید وشت کر بلا رضی اللہ عنہ سے ان کی  
نسبت حضرت امیر المومنین شاہ مرداں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے  
ان کی نسبت حضرت رسالت پناہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ  
والہ وسلم سے۔

⑤ شجرہ خلافت پیران سہروردی قدس اللہ سرہم نسبت فقیر حاجی حمید  
عرف شیخ محمد غوث بجزرت سلطان الموحیدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ  
ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی  
نسبت حضرت شیخ قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین  
جو نیوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت تاج الدین قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت مخدوم جہانیاں سید جلال بخاری قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح بہاؤ الدین قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت صدر الدین ابوالفضل بہاؤ الدین قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت شیخ ابوالبرکات بہار الدین زکریا ملتانی قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ صنیاء الدین ابونجیب سہروردی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت خواجہ وجیہہ الدین ابوحفص قدس سرہ سے ان کی نسبت

حضرت شیخ محمد المعروف بعمویہ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ احمد  
اسود دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت ممشاد علوی دینوری قدس سرہ  
سے ان کی نسبت حضرت سید الطائفین ابوالقاسم خواجہ جنید بغدادی قدس  
سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سیری سقطی قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت معروف کرخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ داؤد طائی قدس  
سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المؤمنین  
شاہ مردان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت احمد  
مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

④ شجرہ خلافت پیران زبگیر پوش یعنی سہروردیہ قدس اللہ سرہ ہم نسبت  
فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھڑت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور  
قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ  
رحمت اللہ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عمر قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ حسین زبگیر پوش قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت شیخ سلیمان زبگیر پوش قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ  
نقی الدین قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ احمد مشقی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ  
سے ان کی نسبت حضرت شیخ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی قدس سرہ سے  
ان کی نسبت حضرت شیخ وجیبہ الدین ابو حفص قدس سرہ سے ان کی نسبت  
حضرت شیخ محمد المعروف بعمویہ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت احمد اسود

دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ممشاد علوی دینوری قدس سرہ ان کی نسبت حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ ان کی نسبت حضرت خواجہ ستری سقطی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ معروف کوخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ داؤد طائی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حبیب نجفی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین شاہ مردان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

(۷) شجرہ خلافت پیران قادریہ قدس اللہ اسراہم نسبت فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھنرت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قاضی شطاری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبدالوہاب قادری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبدالرؤف قادری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمود قادری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبدالغفار صدیقی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قادری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ علی حسینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ جعفر احمد حسینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابراہیم حسینی قدس سرہ سے ان کی نسبت شیخ عبداللہ حسینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبدالرزاق قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام سید محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام ابوسعید بن مبارک

مخزومی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالحسن علی القریشی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ یوسف بن یوسف طرطوسی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ احمد عبدالعزیز الیمینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت ابوالقاسم عباس احمدی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوبکر عبداللہ شبلی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سیر سیقطی قدس سرہ ان کی نسبت حضرت خواجہ معروف کرخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت رسالت پناہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

⑧ شجرہ خلافت پیران طیفوری المعروف مدار می قدس اللہ سرار ہم نسبت فقیر حقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بکھرت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ حسام الدین مانچوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شاہ بدیع الدین شاہ مدار قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ظہور شامی طیفوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عین الدین شامی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ علم دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت رسالتاب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

شجرہ خلافت پیران ادیس قدس اللہ سرار ہم نسبت فقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھنڈت سلطان الموحیدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ علی شیرازی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ مصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

⑨ شجرہ خلافت پیران فردوس قدس اللہ سرار ہم نسبت فقیر حقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھنڈت سلطان الموحیدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ کریم الدین اودہی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ جمال الدین اودہی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد علا قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت علا بدایونی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین فردوسی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ بدر الدین سمرقندی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سیف الدین باخرزی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ضیاء الدین ابونجیب قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ وجیہ الدین ابو حفص قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد بن عبداللہ المعروف بعمویہ قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ احمد اسود دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ ممشاد علوی دینوری

قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ سری سقطی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ معروف کرخی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت رسالت پناہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔

(۱۰) شجرہ خلافت پیران خلوتی قدس اللہ سرہ ایم نسبت فقیر حقیر حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بحضرت سلطان الموحّد شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت شہرست قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ شطار قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ مظفر سرکالی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابراہیم عشقبازی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سید میراں نظام الدین قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ محمد خلوتی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ نجم الدین خوارزمی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ غلام الدین قاضی عبداللہ بدس قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقادر بہروردی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام احمد نزاری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت ابوبکر نساج قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالقاسم کرکافی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت عثمان مغربی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوعلی کاتب قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ علی رودباری



قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ الشیوخ رئیس القوم خواجہ جنید بغدادی قدس  
 سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ سری سقطی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت  
 خواجہ معروف کرنی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس سرہ  
 سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حسن بھری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر  
 المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
 (۱۱) شجرہ خلافت پیران سید علی موحّد ربانی قدس اللہ سرہ ہم نسبت فقیر حقیر  
 حاجی حمید عرف شیخ محمد غوث بھگت سلطان الموحّدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس  
 سرہ ان کی نسبت حضرت شیخ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست قدس سرہ سے ان کی  
 نسبت حضرت شیخ محمد قاضی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ شطار  
 قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سید سادات سید علی موحّد قدس سرہ سے ان کی  
 نسبت حضرت شیخ زین الدین خوارزمی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سید  
 السادات سید عبدالرحمن قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت جمال الدین محمود اصفہانی  
 قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ عبدالصمد نظری قدس سرہ سے ان کی نسبت  
 حضرت شیخ علی مرعشی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ شہاب الدین بہرودی  
 قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی قدس سرہ  
 سے ان کی نسبت حضرت شیخ وجہہ الدین ابوحفص عمر السہروردی قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت شیخ محمد بن عبداللہ المعروف بجمویہ قدس سرہ سے ان کی نسبت  
 حضرت شیخ احمد اسود دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت شیخ ممشاد علی  
 دینوری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ سے  
 ان کی نسبت حضرت خواجہ سری سقطی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ  
 معروف کرنی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امام داؤد طائی قدس سرہ

سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے ان کی نسبت حضرت خواجہ کائنات خلاصہ موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

## وہ باطنی خلافتیں جو فقیر کو بیاضا و مکاشفہ میں عطا ہوتیں

پر وہ سرادقات عزت سے معززین نے اس بیچارہ کو سر بلندی بخشی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنا جانشین مقرر کیا، وارث نبی بنا دیا جس طرح پیران ظاہر اپنے مریدین کو سر بلند کرتے ہیں اسی طرح مرشدین اہل دصال نے اس طالب ارادہ ہدایت کو عزت بخشی اور خلافت و نعمت عطا فرمائی۔

① مکاشفہ سب سے پہلے حضرت سلطان العارفین خواجہ بایزید بد بسطامی قدس سرہ نے شرف قبولیت سے مشرف کیا۔ اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ نے اس ذرۃ ناپیز کو خلافت سے سرفراز کیا اور جانب کوہستان قلعہ چنار میرا تقریر کے یہ حکم دیا کہ یہاں خلوت زاہدانہ میں مشغول رہو۔ اس فقیر نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی۔ اور قلعہ کے قریب دریائے گنگا کے کنارے ایک سال خلوت میں رہا۔ سال کے آخر میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیعت کر لو۔ فقیر نے بہت معذرت کی لیکن وہ نہیں مانا آخر میں نے اس کو بیعت کیا۔ یہ بیعت عین حالت ریاضت میں نخل انداز ہوئی سر میں درد ہوا جس کے نتیجہ میں تین ماہ تک بے حضور رہی تو اس سال کو گزار کر دوسرے سال چار سال کی نیت خلوت کی۔ ابھی پھر ماہ ہی ہوئے تھے کہ پھر ایک شخص باعقاد کامل میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت

ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ اس فقیر نے بیدانکار کیا لیکن وہ باز نہ آیا تو مجبوراً میں نے اسے  
 بیعت کر لیا چنانچہ پھر اسی طرح سر میں درد ہو گیا جس طرح پہلے ہوا تھا۔ اب یقین ہو گیا  
 کہ یہ فقیر بیعت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کسی کو بیعت نہ کروں گا۔  
 اس بات کو ایک سال کامل نہیں ہوا تھا کہ دل میں خیال ہوا کہ اکثر لوگ بیعت کرتے  
 ہیں لیکن ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ مگر مجھے تکلیف پہنچتی ہے آخر کیا وجہ  
 ہے پر وہ غیب سے ہاتھ لاریب نے خبر دی کہ وہ صرف رسم ادا کرتے ہیں اور  
 ان سے بیعت ہو کر لوگوں کو فیض نہیں ہوتا اور وہ ظاہری پیر کسی مرید کا بار اٹھانے  
 کے قابل نہیں ہوتے۔ جن کے اندر مریدوں کا بار اٹھانے کی قوت نہیں ہوتی۔  
 بس اب یہ یقین ہو گیا کہ یہ فقیر حقیرا بھی شایان ولایت نہیں ہے اس لیے آئندہ  
 کسی کو بیعت نہیں کرے گا یہ پختہ عزم میں نے اپنے دل میں کیا اور رضیت باللہ  
 مشغول ریاضت ہو گیا اور نفس کو میں نے یہاں تک سزا دی کہ آٹھ ماہ کے دوران  
 صرف سولہ مرتبہ کھانا کھایا۔ اٹھائے ریاضت میں پھر ایک سید صحیح النسب میرے  
 پاس مرید ہونے کی عرض سے آیا تو اس کو فقیر نے یہ جواب دیا کہ میں کسی کو بیعت  
 کرنے کے لائق نہیں ہوں؟ الفرغن کافی بحث ہوئی آخر سید زادہ نے میرا دامن  
 پکڑ کر کہا کہ اگر اللہ سے بیعت نہیں کرتے تو پیر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کے لیے تو مجھے اپنے سلسلہ میں منسلک کر لیجئے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی فقیر اپنے  
 آپے میں نہ رہا۔ وجد آ گیا۔ جب ہوش آیا تو خیال آیا کہ جب میں اپنے مرشد  
 حضرت سلطان الموحدین شیخ ظہور حاجی حضور قدس سرہ سے بیعت ہوا تھا تو حضرت  
 نے مجھے بیعت کے بعد اپنے سر سے کلاہ اتار کر عطا فرمائی تھی اگر وہی کلاہ ان  
 سید زادہ کو دے دوں تو اس فقیر کو کوئی تشویش نہ رہے گی۔ انہیں بیعت  
 کرنے کے بعد میری اب پھر وہی کیفیت ہو گئی جو اس سے پیشتر دو آدمیوں کو

بیعت کرنے کے بعد ہوئی تھی بلکہ اس مرتبہ اس بھی زیادہ ہو گئی اور جب مجھ پر  
 بخودی طاری ہوئی تو ایک آدمی نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہاتھ ہوں۔  
 میں نے پہلے ہی تمہیں کسی کو بیعت کرنے سے بالکل منع کر دیا تھا اب پھر تم نے  
 وہی فتنہ جگا دیا۔ فقیر اس پر شرمندہ ہوا کہ اچانک حضرت شیخ محمد علاء المعروف شیخ  
 قاضی فردوسی سہروردی شطاری ظاہر ہوئے گھوٹے کی ایک جدول پر خود بیٹھے  
 ہوئے اور ایک جدول خالی تھی۔ جب فقیر کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ اٹھ خالی جدول  
 پر میرے ساتھ بیٹھ جا اور میرے ساتھ چل تو ہم تیرے لشکر کی منظوری کرا کے تجھے یہاں  
 واپس لے آئیں گے چنانچہ فقیر ان کے ساتھ سوار ہو کر ایسی جگہ پہنچا کہ وہاں دنیا کی  
 کوئی علامت نظر نہیں آئی وہاں کچھ دیر ٹھہرے تو کچھ دیر کے بعد مغرب کی جانب  
 ایک محل نظر آیا اس کے دروازہ پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے اندر سے حضرت سلطان  
 العارفین خواجہ بایزید بسطامی نے دروازہ کے باہر آ کر سلام کیا تو حضرت شیخ قاضی  
 نے سلام کا جواب دیا اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر سلطان العارفین کے قدموں میں گر گئے  
 اور عرض کیا کہ یہ فرزند صنور والا اور دیگر مشائخ کے زمرہ میں لشکر جمع کر رہا ہے  
 کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو اور اس کے لشکر کو قیامت تک  
 کے لیے قبول کیا میں نے عالم الہی میں اس کی قبولیت دیکھی تھی اور صف انبیاء  
 میں اس جوان کو پایا تھا اور چو بھی اس سلسلہ میں داخل ہو کر بیعت کرے گا قیامت  
 تک میں نے اس جماعت کو قبول کیا اور اس سلسلہ کو قیام قیامت کے لیے  
 جاری کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سے فقیر نے عرض کیا کہ میں بیعت کرنے سے  
 ڈرتا ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آہم تجھے حضرت رسالت ماب کے سامنے  
 لے جائیں اور تیرے لشکر کو منظور کرائیں بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئے  
 وہاں حضرت رسالت ماب اور صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت سلطان العارفین نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے سلسلہ میں داخل ہوگا اس پر آتش دوزخ حرام ہوگی اور عاقبت کا اس سے مواخذہ نہ ہوگا بغیر ایمان کے اس کو توفیق بیعت نہ ہوگی اور جو اس سلسلہ کو قبول کرے گا تو یہ بات اس کے ایمان کی علامت ہوگی جس کا ثمرہ مغفرت ہوگی قدر سے توفیق کے حضرت نے دریافت فرمایا کہ اب کیا بات باقی رہی فقیر نے عرض کیا کہ درگاہ رب العزت بے نیاز و بے پرواہ ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں بارگاہِ صمدیت میں لے جائیں گے فقیر نے کہا حضور حاکم ہیں تو آنحضرت نے فقیر کا ہاتھ پکڑا اور دیوار سے باہر آئے تجلی نور متجلی ہوئی۔ جو کچھ صورت حال تھی بلا تامل عرض کر دی فرمانِ حق ہوا کہ جو خود آگے بڑھے گا وہ پیچھے رہے گا اور اس کا عذاب دہ چھلکتے گا اور جو مست و بیخود ہوگا اور اسے اپنی خبر بھی نہ رہے گی وہ داخلِ بحق ہوگا راہِ حق دکھائے گا پس جلالِ عظمت سے فرمان جاری ہوا اور جمالِ کبریائی سے اطلاع کی کہ اسے درویش جو تجھے اخلاص سے دیکھے گا اُسے نجات دارین حاصل ہوگی۔ تیسرے سلسلہ کی مثال دریا کی سی ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا پاک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہوا کہ اہل ولایت کو حاضر کر کے ان کی قبولیت کی خبر ان میں نشر کر دی جائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اولیاء کو حاضر کیا وہ جب مشرق سے مغرب تک جماعت کی صورت میں نہایت ادب سے حضرت رسالتاب کے سامنے بیٹھ گئے تو میرا ایک ہاتھ سلطان العارفین نے پکڑا اور دوسرا ہاتھ مخدوم شیخ قاضی نے پکڑ کر مجھے اولیاء کے درمیان سے گزارا اور انہوں نے تمام اولیاء اللہ کو زور سے پکار پکار کر کہا کہ یہ جو ان ولایتِ حق مقبول اور برگزیدہ ہے پھر حضرت رسالتاب کے سامنے مجھے پیش کیا آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خرقة لے لے بائزید اس کو

دسے دیر نہتے ہی حضرت سلطان العارفين نے اپنا خرقة اُتار کر اس فقیر کو پہنا دیا اور حضرت شیخ فاضل سے فرمایا کہ اس کو اس کے مقام سکونت پر پہنچا دو آپ نے بھی اپنا جامہ عشیقہ بٹھے پہنا دیا اور فقیر کو خلوت خانہ فقیر تک پہنچا دیا۔ عجیب و غریب کیفیت رونما ہوئی۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آج کا منظر کچھ عجیب ہے فقیر نے کہا کہ واقعی یہی بات ہے۔ اس گفتگو کے دوران ایک جماعت مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ پہلی جیسی حالت پیدا نہ ہو جائے کہ اچانک مجھے الہام ہوا کہ اسے محمد غوث کیا نواب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی میں نے استغفار کر کے اس جماعت کو بیعت کر لیا تو کوئی تکلیف و نشوونما پیدا نہ ہوئی۔ بیعت کے بعد ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ تیرے سکون قلبی کے لیے ہم نے اس جماعت کو تیرے پاس بھیجا تاکہ تجھے تسکین ہو اور خبر باطنی کا یقین ہو جائے۔ اس کے بعد آئندہ صبحے جو بھی خبر باطنی ملے تو اس پر یقین کرنا اور مدت قریب دبید میں اس کا انکار نہ کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ تجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے۔ مکاشفہ یہ فقیر ملک چین کے کنارے پہنچ گیا تھا وہاں ایک بڑا پہاڑ تھا جس کا نام نیلا جل ہے۔ میں نے وہاں خلوت اختیار کی ایک سال گیارہ ماہ کے بعد ایک عجیب و غریب حالت رونما ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ دریا سے گذر رہا ہے۔ میرا بھی ارادہ ہوا کہ اس دریا سے سفر کروں کہ اچانک ایک شخص نے سامنے آکر مجھ سے کہا کہ بادشاہ کی کشتی میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ خدام اپنے لیے ایک علیحدہ کشتی مہیا کر کے اس سے اس دریا کا سفر کرتے ہیں۔ فقیر نے یہ بات مان لی اور ایک اور کشتی میں سوار ہو گیا کہ یکا یک بادشاہ کی کشتی دریا کے کنارے لگ گئی اور فقیر کی کشتی فقیر کے قابو سے باہر ہو گئی اور دریائے محیط کی طرف اس کا رخ ہو گیا اور ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں چاند درمیان میں ہے

اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے وہ فقیر کو دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تم خوب آیا۔ میں  
یہاں تیرے ہی انتظار میں رکھا ہوا تھا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا کہ میں محو حیرت ہوں  
مجھے اپنی ہی خبر نہیں تو اس آدمی نے کہا جاں راہ سلوک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر  
فقیر نے عرض کیا کہ اس دریا سے میرا باہر آنا کیا ممکن ہے؟ اس شخص نے کہا کہ  
تم اس دریا کو پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ دریا بے ہمتی ہے۔  
یہاں دنیا ختم ہے جب مرکز پر پہنچو گے تو تمام دریا تمہاری نظروں سے اوجھل  
ہو جائے گا۔ میں نے کہا مرکز کہاں ہے اس نے کہا کشتی سے اترو فقیر نے  
ایسا ہی کیا پھر اس نے کہا غوطہ لگاؤ اور دریا سے جو چیز تمہیں ملے اس کو نکال  
لاؤ فقیر نے غوطہ کھایا اور مرکز پر پہنچ گیا وہاں کوئی چیز نہ ملی تو میں نے پانی سے  
سر باہر نکال کر اس سے کہا کہ مجھے نو وہاں کچھ نہیں ملا اس نے کہا یہ مرکز انبیاء  
تھا یہاں جانا ہل ہے۔ اس نے پھر کہا کہ دوسرا غوطہ لگاؤ۔ پھر میں غوطہ لگا کر  
مرکز تک پہنچ گیا اور وہاں مجھے کچھ نہ ملا۔ جب میں نے پانی سے اوپر سر نکالا تو  
اس شخص نے کہا کہ یہ مرکز اولیاء تھا یہاں بھی جانا آسان ہے۔ پھر اس نے کہا  
کہ مرکز ولایت کی طرف رخ کرو اور غوطہ لگاؤ فقیر نے پھر دوسری جگہ غوطہ  
مارا تو چند سال چلتا رہا تب اس کی انتہا تک پہنچا وہاں جو میں نے جستجو کی تو  
ایک مٹھی خاک ہاتھ آئی میں نے پانی کی بالائی سطح پر آکر اس آدمی سے  
کہا کہ اس ایک مشت خاک کا کیا کردار اس نے کہا کھا جاؤ گے تو کچھ اور تاثیر ہو  
گی اور اُسے تمام بدن پر بھی ملو فقیر نے ایسا ہی کیا تو اس آدمی نے کہا کہ اس  
خاک کی تاثیر کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ اب تمہارے فیض سے عالم کا ظہور ہے  
یہ کہہ کر وہ شخص فقیر کے پاس آیا اور اپنے بدن سے کھرتہ اتار کر فقیر کو پہنا دیا  
اور میں نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو جواب میں یہ فرمایا کہ میں

اویس قرنی ہوں۔ میں یہاں تمہارے انتظار میں تھا اب اپنی جگہ چلا جاؤں گا اب اس کے بعد فقیر پھر یہاں نہیں آئے گا اس مکاشفہ کا اثر تیسویں سال شروع ہوا اور انجام اس کا حق تعالیٰ جانتا ہے۔

② مکاشفہ ایک رات میں میں اپنے وقت مقررہ پر اپنی جگہ موجود تھا کہ یکایک صدا بلند ہوئی کہ یہ معموری و حضوری کا وقت ہے اپنے گھروں سے باہر آؤ چنانچہ فقیر نکلتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ تمام لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور ایک دریا ظاہر ہوا ہے کہ تمام عالم اس میں جمع ہو رہا ہے اور کوئی ایک فرد ایسا باقی نہیں رہا جو اس میں نہ آگیا ہو اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے مرکز میں ایک چمکدار ایک صحیح تخت ہے اور اس کے آگے دریا میں سے دو تے نکلے ہوئے ہیں ایک تو تہ آہ اور دوسرا تہ آتش ہے اور ایک شخص تخت بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کر رہا ہے اور تمام مخلوق دریا میں داخل ہو رہی ہے اور نصف سے زیادہ لوگ آپکے ہیں فقیر کو یہ خیال ہوا کہ دریا میں داخل ہونے والے شاید دم بدم تخت کے قریب پہنچ رہے ہیں اور فقیر ان کو پہچانتا ہے پس ہر آنے والا فقیر سے ملا اور فقیر نے ان سے ملاقات کی اور میں اور وہ سب لوگ تخت کے قریب پہنچ گئے۔ محافظ تخت نے اٹھ کر فقیر کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر لا کر بٹھا دیا اور اپنا پیرا ہن اُتار کر فقیر کو پہنا دیا اور دو طبق تہ جمال کے فقیر کے سر پر بچھا اور کیسے اور تین طبق تہ جلال کے بھر کر بچھا دیا۔ میں نے زیادہ طلب کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری شان کے لائق اتنے ہی تھے فقیر نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں آپ نے جواباً فرمایا فرید الدین شکر گنج تو فقیر نے آپ کے سر اور قدموں کا بوسہ دیا اور حضرت سے دریافت کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دریائے ہستی ہے اور یہ تخت رب العالمین ہے اور یہ دونوں



تھے یا شاخیں جلال و جمال کی ہیں۔ جو ولی و نبی اس مقام پر پہنچا ہے اس شرف کے مشرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد فقیر نے حضرت سے پوچھا کہ اے آقاے نعمت صرف تنہا آپ ہی محافظِ تحت ہیں حضرت نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم چار اشخاص تحت کے محافظ ہیں۔ فقیر نے عرض کیا باقی تین حضرات کے اسمائے گرامی کیا ہیں فرمایا حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي و خواجہ جنید بغدادی اور خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ اسرارہم اور یہ حضرات اپنی اپنی باری پر تحت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ان کے دور میں جو ولی مقرب یہاں آتا ہے اُس کو یہ بھی جامہ و خلافت عطا فرماتے ہیں اور ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس کو جلال و جمال کے حصہ سے سرفراز کرتے ہیں۔ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر فقیر نے سوال کیا کہ آپ حضرات کی پیدائش تو امتِ محمدی میں ہوئی۔ اس تحت کی نگہبانی کس طرح سپرد ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہماری حقیقت کا اس رتبہ سے تعلق ظہور سے پہلے بھی تھا اور ظہور کے بعد بھی ہے یہاں مادیت و جسمانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر فقیر نے عرض کیا کہ اتنے لوگ جو قریب نظر آتے ہیں یہاں تک کس طرح پہنچے آپ نے فرمایا کہ برسوں سے تمام عالم اس دریا میں ہے کوئی باہر سے نہیں آیا اور جو لوگ تمہیں قریب نظر آتے ہیں وہ درحقیقت دور ہیں اور ان میں یہ استعداد نہیں کہ یہاں تک آسکیں۔ مدتوں کے بعد اب تو یہاں پہنچا ہے اس سے یہاں تک رسائی حاصل کرنے والوں کا حساب لگاؤ۔ میں نے ان تمام باتوں کو دیکھا اور سمجھا پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جو تمام لوگ یہاں ابھی تک پڑے ہوئے اور کسی رتبہ پر نہیں پہنچ سکے یہ سب تمہارے تابع ہیں جو ان میں سے تمہارے مرتبہ کو تسلیم نہ کرے گا۔ بد نصیب ہو گا اور فیض سے محروم رہے گا۔ جب میں رخصت ہو کر دریا کے کنارے

پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام مخلوق میرے پیچھے ہے مگر معدودے چند جن سے میں واقف ہوں۔ پھر میں اپنی اسی حالت پر آگیا اور اتنا لطف و سرور حاصل ہوا کہ اس کو معرض تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔

③ مکاشفہ اس درویش نے کچھ مدت تک کے لیے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا تھا کہ رات کو سویا نہ کر دں اور دن میں غافل نہ رہوں۔ اسی طرح آٹھ مہینے گزر چکے تھے کہ اسی دوران میں ایک روز ایک شور برپا ہوا کہ بادشاہ آگیا یہ فقیر بادشاہ کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لقمہ و دو ق مچلے اس میں ایک عالی شان محل ہے اور اس کے نیچے ایک نہر جاری اور اس محل میں اولیاء اللہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس کے درمیان میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رونق افروز ہیں۔ آپ نے جیسے ہی فقیر کو دیکھا تو بلا کر اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ عنایت فرمائی اور پہلے یہ فرمایا کہ یہ مجلس خدام کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ اس میں تم جہاں بیٹھے ہو وہ تمہاری ہی جگہ ہے اس کو قبول کرو۔ میں نے یہ بات سنتے ہی ادب سے سر جھکا دیا۔ پھر حضرت مخدوم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مدت سے تمہاری امانت میرے پاس تھی وہ اب مجھ سے لے لو اور اپنے بدن سے قبا اتار کر مجھے پہنا دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر محل سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام جن حاضر ہیں اور سلطان جن ابراہیم اور سلطان بکتا نوش حضرت کے سامنے آئے حضرت شیخ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں فقیر کے حوالے کر دیا اور یہ فرمایا کہ پہلے یہ دونوں مہتر سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں تھے ان کے بعد ہمارے حوالے ہوئے۔ اب حق تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے حالات سے باخبر رہنا پس فقیر نے حضرت شیخ کی طرف

جو نظر کی تو یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت فرتوت پریشان کھڑی ہے اور حضرت مخدوم سے عرض کر رہی ہے کہ جب نام لشکر آپ نے ان کے سپرد کر دیے تو ہماری بھی سفارش کر دیں اور ہمیں بھی ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت مخدوم ہاتھ پکڑ کر یہ فرماتے ہیں کہ لے حضرت شیخ محمد غوث ہمارے سلسلہ میں ایک دستور ہے جس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا یہ سن کر اس فقیر کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت مخدوم کیا فرما رہے ہیں خود بھی لباس دنیا میں ملبوس ہیں اور دوسروں کو بھی اسی لباس میں لایا رہے ہیں جیسے ہی یہ خطرہ دل میں آیا حضرت شیخ نے یہ ظاہر کیا کہ جو شخص اسما اللہ کی دعوت کرے اس کے بے لازم ہے کہ نسیم دین و دنیا کو قبول کرے۔ کوئی پیغمبر اس کے بغیر نہیں ہوا۔ ہر اسم موقوف، بوصف ظہور ہے بغیر علم ازلی بہ کسی کو عطا نہیں ہوتا تو فقیر نے یہ بات قبول کی تو سارے عالم کی سر پر آپڑی اور دوسرے اسرار درموز بھی سامنے آئے جو لائق تحریر نہیں ہیں۔

④ مکاشفہ ایک وقت میں محمد ہر ایسی بخودی طاری تھی کہ کسی طرف بھی میں متوجہ نہیں تھا پھر جب ہوش میں آیا تو اپنی جستجو کی نو دیکھا کہ جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں دلی کافینض نمایاں نظر آ رہا ہے پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی کافینض کہاں جاری ہے کہ اچانک ایک مکان ظاہر ہوا جس کا صحن انبیاء و اولیاء سے منسوب تھا اور اس مکان میں ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی سے ادب سیکھا اور اسی طرح ہر بعد میں آنے والا دلی پہلے دلی سے ادب سیکھتا ہے اور تمام انبیاء و اولیاء اس مکان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ نبی کا کمال ظاہر میں اور دلی کا کمال باطن میں۔ وہ آدمی یہ باتیں کر کے غائب ہو گیا اور اب وہ مکان نظر آئے وہاں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک مکان حضرت غوث الصمدانی سید محی الدین عبدالقادر گیلانی قدس سرہ کا ہے اور ایک مکان

حضرت شیخ محمد غوث کلبے۔ فقیر کو اس آدمی کی یہ بات سُننا اچھا نہیں معلوم ہوا اسی اثنا میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے ظاہر میں آکر فرمایا کہ اے میرے فرزند شیخ محمد غوث مکان میں اس آدمی نے یہ کیا کہا کہ بعد میں آنے والے نے پہلے آنے والے سے ادب سیکھا ہے یہ فرمانے کے بعد حضرت غوث اعظم فقیر کے بالکل قریب آگئے اور اپنا پیرا ہن اُتار کر اس فقیر کو پہنا دیا اور یہ ارشاد کیا کہ اس رُتبہ کے لائق جو حضرات تمہارے ارد گرد ہیں وہ سب تم سے فیض حاصل کریں گے اور اس رُتبہ کو حاصل کر کے ہی ادب کی انبیا تک رسائی ہوتی ہے۔

⑤ **مکاشفہ**۔ یہ فقیر کو ہستان میں مشغول ریاضت و مجاہدہ تھا کہ اچانک یہ نیت کی کہ چھ ماہ تک آستانہ حضرت شیخ شرف الدین احمد سیکی منیری پر جاؤ۔ کئی کرتار ہوں اس ارادے سے کوہستان قلعہ چناسے حضرت کے آستانہ کی طرف روانہ ہوا کچھ دور چلا کہ دوپہر کا وقت ہو گیا تو جنگل کے کنارے آرام کرنے لگا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم وہیں تشریف لے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہ لے شیخ محمد غوث تمہاری نیت مقبول ہو گئی ہم سے اپنی نعمت لے لو اور یہیں سے واپس ہو جاؤ یہ کہہ کر آپ نے اپنا پیرا ہن اُتار کر مجھے پہنا دیا اور ایک حائل عطا کی کہ تمہارا معاملہ میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تمہیں یہ بات خود بھی معلوم ہو جائے گی۔

⑥ **مکاشفہ**۔ ایک رات میں فقیر مشغول ریاضت تھا کہ اچانک حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے آکر السلام علیکم فرمایا فقیر ادب سے تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے گفتگو کی ابتدا اس طرح کی کہ لے شیخ محمد غوث میں نے پہلے تمہیں صفت انبیاء میں دیکھا تھا تو دل خوش ہو گیا کہ اگر تمہیں ان کی صحبت میسر

اُنے تو کتنا اچھا ہو۔ دل میں یہ خیال آتے ہی میں نے یہ دیکھا کہ تم صفت انبیاء سے گزر کر قعدہ اخیرہ میں صفت اولیاء میں آگئے اور محو حال ہو گئے۔ اس روز جو پیراہن میں نے زیب تن کیا تھا وہ تمہاری نیت سے پہنا تھا یہ سنتے ہی میں سرنگوں ہو گیا اور حضرت نے اپنا وہ پیراہن مجھے پہنا دیا و عاے شکر انہ ہوئی اور الحمد للہ کمال ازل اس صورت میں نمایاں ہوا۔

⑥ مکاشفہ ۱۔ فقیر قلعہ چنار میں مشغول مجاہدہ تھا۔ چند سال اسی طرح گذر گئے تو اس علاقہ میں شہرت ہو گئی تو وہاں کے مخدوموں کو کچھ ناگوار گدیا بعض آنے والے فقیر کے مُنہ پر یہ کہتے تھے کہ یہ ولایت شیخ حاجی چراغ ہند کی ہے چنانچہ فقیر اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ بغیر اُن کی اجازت کے کیا نتیجہ نکلے گا دوسرے دن چاشت کا وقت تھا کہ حضرت والائے آکر سلام کیا اور فقیر نے اُن کے سلام کا جواب دیا پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ شیخ بدہ ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں شیخ حاجی چراغ ہند وستان ہوں یہ سنتے ہی اس فقیر نے ادب سے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی۔ حضرت نے فرمایا آج ہم قلندرانہ طریق میں آئے ہیں صبح تم کو خلافت دیں گے چنانچہ دوسرے روز وقت مقررہ پر آئے اور خرقة خلافت عطا کر دیا اور یہ فرمایا کہ اس علاقہ کی ولایت ہم نے اپنے فرزندوں اور خلفاء سے چھین کر تمہارے حوالے کی ہے لیکن تم ہم سے رابطہ قلبی منقطع نہ کرنا۔ تمہارا رتبہ اور بڑھے گا اور تمہیں خود اس کا علم ہو جائے گا۔

⑧ مکاشفہ ۱۔ یہ فقیر بنگال کے سفر میں تھا۔ راستہ میں بہت پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ ایک مقام پر تو اس حد تک تشویش پیدا ہوئی کہ زندگی سے ناامید ہو گیا پھر دل میں یہ بات آئی کہ اس صورت حال کی اصل حقیقت حضرت شیخ

نور قطب عالم سے معلوم کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کی ولایت ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ حضرت آ موجود ہوئے اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منبرہ میں سے گئے اور مجھے اپنی قبر کے اوپر بٹھا دیا اور فرمایا کہ ہم نے اب اپنا پیرا ہن تمہیں عطا کر دیا تم ہمارے سلسلہ کو جاری رکھنا۔ ہم تمہارے رتبہ کی ترقی کو پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں ہم سے بے تعلق اختیار نہ کرنا۔

⑨ **مکاشفہ** :- جس وقت ہمایوں بادشاہ نے حضرت شیخ بہلول جہانیا سے بیعت کی تو شیخ نے فقیر سے دوری و بے اعتنائی اختیار کی۔ شیخ کے اس طرز عمل سے اتنے خطرات پیدا ہوئے کہ انہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ مشائخ سابقین کو بھی اس قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ حضرت سلطان الصوفیہ شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ تشریف لے آئے اور یہ فرط نے لگے کہ اسے شیخ محمد غوث اس کی پروردہ مت کر دیکونکہ بادشاہوں اور ویشوں کی دوری و بے رخی سے اس فقیر کو بھی بہت سے خطرے لاحق ہوئے آخر خیریت سے گذر گئے میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں اسے لے لو یہ کہا اور جامہ خلافت عطا فرمایا اور اپنی قبر کے اوپر بٹھا دیا اور کہا کہ اب تشویش نہ کرنا آخر یہ تشویش ترقی کی حامل ہے جتنی تشویش ہوئی اتنی ہی زیادہ ترقی ہوگی اس کے بعد فقیر ہوش میں آ گیا۔

⑩ **مکاشفہ** :- یہ درویش ایک غار میں مشغول عبادت تھا اور میرے ساتھ میرے چند اجباب بھی تھے ان کے اسماء شیخ جمال و شیخ ناصر تھاں و شیخ قاضی شطاری و شیخ احمد غازی و شیخ عطاء اللہ طائی ہیں۔ ہماری نیت یہ تھی کہ یا تو حق تعالیٰ اپنے قرب میں پہنچا دے یا ہم اسی غار میں اپنی جانیں

تربان کر دیں۔ غار نہایت مہیب و عظیم تھا۔ بیشمار عجائب و غرائب اس کے اندر دیکھنے میں آئے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کل اکتیس روز ہوئے تھے کہ یکایک شور برپا ہوا اور اتنی مشعلیں نمودار ہونے لگیں کہ شمار سے باہر تھیں۔ آخر ان کو دیکھ کر اور ان سے واقف ہو کر دہشت زدہ ہو کر تمام اجباب میرے پاس آگئے اور مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہے فقیر نے جواب دیا کہ یہ عالم غیب کے عجائب و غرائب ہیں یہ سن کر اجباب نے کہا کہ کیا جان کا خطرہ نہیں ہے فقیر نے کہا کیوں نہیں ضرور ہے پھر میں نے اپنے اجباب سے کہا کہ تم پانچ آدمی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور فقیر کو تنہا چھوڑ دو پہلے تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی لیکن بعد میں مان گئے۔ فقیر ان سے الگ ہو گیا اس غار میں ایک گوشہ اور تھا میں وہاں چلا گیا اور مصلیٰ بچھا کر بیٹھ گیا یکایک اس میں سے ایک شور برپا ہوا اور اس میں سے ایک مرد بزرگ نے فقیر سے آکر کہا کہ تمہیں تمہارے جد بلا ہے ہیں۔ فقیر نے پوچھا کون اس نے کہا حضرت خواجہ فرید الدین عطار و قاضی معین الدین قتال جو جو پور میں مدفون ہیں۔ پھر فقیر نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور بھی وہاں ہے اس نے کہا اکثر انبیاء و اولیاء موجود ہیں سوائے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فقیر ان کے پاس گیا اور جماعت انبیاء و اولیاء وہاں موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ انہوں نے میرے بیٹھتے ہی مجھ سے یہ سوال کیا کہ اتنی سختی و مصیبت کیوں ہے فقیر نے جواب دیا کہ دیدار حق کی خاطر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مقصد کامل ہے پھر ارجح اولیاء نے یہی گفتگو شروع کی کہ اتنی سزا کیوں ملتی ہے فقیر نے ان سے بھی یہی کہا کہ دیدار خدا کی خاطر یہ سن کر اولیاء نے خاموشی اختیار کی اور حکیم لقمان سامنے آئے اور کہا کہ آؤ میں تمہیں غیب

غیب و شہادت کی سطح دکھاؤں تو باخبر ہو جاؤ گے فقیر نے کہا خوب ہو گا اور تمام ارواح نے بھی خواہش کی تو لقمان حکیم نے کہا کہ یہ تمام ارواح مثالی ہیں تم ان کے درمیان میں آ کر دیکھو پس جب درمیان میں آیا تو نبھے غیب نظر آیا نہ شہادت۔ لقمان حکیم صورت مثالی میں آگے آگے تھے اور پوچھنے لگے کہ سمجھو گے فقیر نے کہا جی ہاں سمجھ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اور واڑہ پر دستک دو تمہارے دادا کھڑے ہوئے کچھ پوچھ رہے ہیں پس میں نے دیکھا کہ خواجہ فرید الدین و قاضی معین الدین قتال کھڑے ہیں ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے یہ بات شروع کی کہ نبھے یہ ڈر تھا کہ سطح اول بے نشان ہے اور تمہارا خیال نہ جائے گا شکر حضرت صمدیت کا کہ تجھے جلوہ دکھایا نشان قبولیت کو قبول کرو۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں نے اپنے پیراہن اتار کر مجھے پہنا دیئے کہ یہ تیرا مقام سلوک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت ترقی کرے گا اس کے بعد فقیر ہوش میں آگیا اور اپنے اجباب کے پاس پہنچا اور نہایت خوش و خرم ہم سب ایک ساتھ اس غار سے باہر نکل آئے۔ غار کے احوال اس قدر طویل ہیں کہ تحریر یہ نہیں کئے جاسکتے۔

①۱ مکاشفہ: گواہی کے قلعہ میں ایک چشمہ کے قریب یہ فقیر مشغول ریاضت تھا۔ ماہ رمضان مبارک کی پندرہویں یا اکیسویں تاریخ کو ظہر کے وقت ایک مرد ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ تم کو حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں یہ سنتے ہی فقیر خلوت گاہ سے باہر نکلا اور دریافت کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس نے کہا مدینہ میں اور میرا ہاتھ پکڑ کر یا فتاح کہا اور مجھے ساتھ لے کر حرم مدینہ میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر میرے حاضر ہونے کی خبر حضرت رسالتاب کو کر دی آنحضرت صلی اللہ



عیدہ وآلہ وسلم نے حجرہ بنی بی عائشہ کے اندر مجھے بلایا تو میں نے دیکھا کہ حضور میت کا لباس پہنے ہوئے تخت پر آرام فرمایا لیکن بیدار ہیں۔ میں نے سرکار کی قدم بوسی کی اور سلام عرض کیا حضور نے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا اور آنحضرت نے تین مرتبہ مرجبا فرمایا اس وقت وہاں چاروں خلفاء اور کچھ مستورات حاضر تھیں۔ فقیر پان کھار ڈالتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فقیر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے اس پر فقیر نے کہا کہ ہماری طرف سے انفصال صوم نہیں ہوا تو پھر حضرت نے کہا اب خود ہی تو کھا رہے ہو فقیر نے کہا کہ پان کھانا کھانے کے حکم میں نہیں ہے اور حضرت رسالتاب نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ شریعت میں ویسا ہے اور طریقت میں ایسا پھر آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ اے علی شیخ محمد غوث مسافر ہیں۔ ان پر روزہ رکھنے کی اس حالت میں پابندی نہیں ہے اور ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ فرمانے کے بعد ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ کو دو روٹیاں پکانے کا حکم دیا انہوں نے اندر سے دو روٹیاں پکا کر فقیر کو بھجوا دیں۔ فقیر نے وہ دونوں روٹیاں حضور کے سامنے ہی کھالیں اور سرکار کے لوٹے میں سے پانی لے کر پی لیا۔ وقت رخصت کفن کے اوپر کی چادر حضرت نے فقیر کو عطا کر دی اور یہ فرمایا کہ تم کو ہم نے خلافت دائمی دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا خلیفہ بنا لیا تم ہمارے نائب کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کرو گے۔ آنحضرت کے سر ہانے ایک حامل تھی وہ بھی فقیر کو عنایت فرمائی۔ رخصت ہوتے وقت فرمایا کہ تم ہمارے مصاحب قدیم ہو پھر ارشاد کیا کہ يَا ذَٰلِكَ أَصْحَابُكَ کہتے ہی میں اپنی جگہ پہنچ گیا۔

①۲ مکاشفہ۔ جس وقت یہ درویش قلعہ گوالیار کو چھوڑ کر جنگل چلا گیا تھا

جہاں کچھ ایسے مقامات بھی دیکھے جن کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک دن میں بہتے ہوئے پانی کے کنارے نہایت رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس فکر میں میں بشریت سے گذر کر جب ہوش میں آیا تو یکایک ایک شور و غوغا ہونے لگا اور ایک آدمی بہ آواز بلند کہنے لگا کہ آسمان وزمین کے لشکر ظاہر ہو گئے۔ فقیر نے اس کی طرف متوجہ ہو چھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ فقیر بحال بشریت ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکمل لشکر آپہنچا اور لشکر کے آگے آگے شہدا ہیں اور لشکر کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اور لشکر کے پیچھے فقیر کے مشائخ کھڑے ہیں۔ حضرت رسالتاب کی نظر مبارک جب اس فقیر پر پڑی تو آپ گھوڑے سے اتر کر فقیر کے پاس تشریف لائے۔ فقیر نے آگے بڑھ کر قدمبوسی کی اور حضرت نے معانقہ کیا اور یہ فرمایا کہ ہم تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں تمہارے عدمِ و غم ہجر کا ہم پر بہت اثر ہوا۔ اسی لیے ہم آئے اب احوال باطنی کی خبر دیکر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے ادب سے سر جھکایا حضرت نے ارشادات کا سلسلہ اس طرح شروع کیا کہ تم اے شیخ محمد غوث ہمارے وارث ہو جو کچھ ہم پر گذری ہے وہ تم پر بھی گذری گی یہ تمہارے لیے ضروری ہے اور تکمیل اسی پر موقوف ہے کہ جو نعمت تمہیں ریاضت سے ملے وہ تمہارا اجر اور محنت کا بدلہ ہے اور جو مواہب حق تعالیٰ سے عطا ہو وہ استعداد کی بات ہے اور جو تصرفات عالم سے ظاہر ہو تو ہر ولطف سے تو وہ حسن جلال و جمال سے ہوتا ہے اگر یہ حال مجھوں سے فیض لے کر نہ ہو اور شیوہ مجتہد سے نا آشنا ہو تو اس کی آرزو کے فقیر نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرے بزرگوں سے جب یہ بات ظاہر نہ ہوئی تو فقیر کا حال کیسے ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ دوسرے و دلش تابع دلائل

بل ولایت نہیں ہیں اور چند کلمات بسے ارشاد فرمائے جو اظہار کے لائق  
 ہیں پھر سرکار نے اپنی زبان گوہر نشاں سے فرمایا کہ آگے آؤ میں آگے بڑھا  
 کار نے اپنا جُتہ اور دستار عطا کی اور اخبار عالم میں سے چند خبریں دیں۔  
 فقیر ان کے وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب ان کا ظہور ہوگا میری روانگی کے  
 ساتھ پکڑ یہ فرمایا کہ تو بھی آنا اور ہم بھی آئیں گے میں اور تمام لشکر روانہ ہو  
 شتی میں سوار ہو کر اور یہ فرمایا کہ ہم کفار کے مقابلہ کے لیے جا رہے ہیں۔  
 (۱۱) مکاشفہ۔ ولایت پنہ میں یہ نیت کی کہ ہمیشہ وقت پر حاضر رہوں۔ چار  
 اسی طرح گزرے کہ نہ دن کو چین نہ رات کو آرام میں ان دونوں باتوں  
 بے نیاز ہو گیا تھا۔ ایک رات میں صبح ہونے سے پہلے ایک شخص نے  
 سے پاس آ کر کہا کہ تمہارے یہاں مصروف ریاضت ہونے سے تمام ولیا کو  
 ثانی لاق ہے۔ فقیر نے کہا کیوں؟ اُس آدمی نے جواب دیا کہ چار ماہ سے  
 تعالیٰ کسی ولی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے۔ اُس کی توجہ صرف تمہاری طرف  
 زول سے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں تشریف  
 نے دلے ہیں ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں  
 علوم نہیں کہ حضرت رسالتاب نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے اور وہ خود بھی آچکے  
 میں اس کا منتظر تھا اور یہ میرت تھی کہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ اچانک حضرت  
 سالت ماب کے آنے سے پہلے ایک جماعت کے سردار کی حیثیت سے  
 ہر السادات سید رفیع الدین صاحب ایک صندوق لوگوں کے سردوں پر رکھا  
 آچکے۔ فقیر تعظیم بجا لایا اور آپ فقیر کے پاس کر بیٹھے اور صندوق میرے  
 منے رکھ دیا اور سید رفیع الدین صاحب نے یہ کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لانے والے تھے لیکن ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ

کہ اس کی وجہ سے نہ آسکے اور مجھے یہ حکم دیا کہ تم یہ ستمخیز شیخ محمد غوث کے پاس جاؤ۔ فقیر نے حضرت سے یہ دریافت کیا کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے معلوم نہیں جب تم اُسے کھولو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ جب میں نے صندوق کھولا تو اس میں سے ایک دستار نکلی جو حضرت رسالتاب اپنے سر پر باندھ کر پھرتا رہا رکھ دی تھی۔ دستار کے لاسنے والے بزرگ نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ارشاد کیے ہوئے الفاظ نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہ دستار سرداری و سردری کی دستار ہے جب میں نے وہ دستار سر پر رکھی تو ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے حضور و غفلت برابر ہے کبھی باہم اور کبھی بے ہمہ۔ باقی خلافت اصحاب و درویشاں کے بارے میں تفصیلات میرے ذہن سے نکل گئیں اس لیے انہیں تحریر بھی نہیں کر سکا۔

(۱۲) مکاشفہ ۱۔ معراج حضرت لایزالی نے اس ذرہ ہستی کو کمال ہستی کی طرف بلند کیا۔ اس کا معائنہ ہر ذرہ سے اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی میں آبی کی طرف عکس نظر آتا ہے اس کے جلوے ہر مقام پر نمایاں ہیں اور حقیقتاً لائقاً نے علوی و سفلی کو ظاہر کر دیا اور اپنی کشش کی کمند سے اپنی طرف کھینچ لیا اور محبوبیت سے مشرف کر کے عاشقی میں مشغول کر دیا کہ عشق ہی سے قرار حاصل ہوا۔ ایک حقیقت نے تمام صورت کو آراستہ کیا اور ازل سے ابد تک کا آغاز و انجام ظاہر کر دیا۔ جاننے والا دیکھنے والا اور کلام کرنے والا وہ خود ہی تھا۔ آپ ہی اپنے آپ کو بڑھایا۔ واضح ہو کہ اس فقیر نے رجوع کامل کے سلسلہ میں کوہستان چنار کے ایک پہاڑ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور وہیں خلوت اختیار کی۔ چند سال تک دائم الحال باتن لاغر و دل بریاں و چشم گریاں وہاں رہا۔ تن میں سردی آنکھوں میں نور اور دل میں حضور باقی نہ رہی تھی۔ کبھی خود سے دوری بکن معوی

اور کبھی نہ دوری اور نہ معموری۔ غنی بگناہ خود، ظاہر بظہور خود اور باطن بکھنور خود ہو جایا کرتا تھا۔ ماہِ جمادی الاول میں ایک روز عصر کے وقت اچانک ایک شور برپا ہوا۔

مہ میں اس پہاڑ سے بادِ سبک کی طرح نیچے آگیا اور پہاڑ کی طرف جو رخ کیا تو دیکھا کہ بے زبان کی زبان گویا ہوئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر یہ باتیں شروع کر دیں کہ تو کون ہے اور کیا ہے اور کہاں کا ہے کہاں جا رہا ہے تو کیا اور کیوں ہے کیوں جا رہا ہے اور کہاں رہتا ہے اور کیوں آیا تیرے پاس کیا ہے اور کیا کسی کو دے گا اور کس کے کام آئے گا اور تیرا خیال کیا ہے اور حال کیا ہے اور تیری طبیعت میں چون و چرا نہیں جو تو جانتا ہے اُسے جان اور جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے اور جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دے جو کچھ تو نہیں جانتا وہ میں بھی نہیں بتاتا جو تو نہ کہے وہ میں نہ کہوں اور جو تو نہ پڑھے میں نہ پڑھوں اور جس کو تو نہ تلاش کرے میں بھی اُسے تلاش نہ کر دوں یا کسی سے تو اپنی حاجت طلب کر یا کسی کی تو حاجت بر لا۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو میں بہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو آواز آئی میں سراپا تو ہی تو ہوں تیری ہی جستجو میں ہوں اور تجھی سے پوشیدہ ہوں تو کون ہے اور کہاں ہے۔ جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو دماغ کوئی نہیں تھا تو معاطہ اسی کی ذات پر چھوڑا اور روانہ ہو گیا۔ حیرت کے عالم میں چند قدم چلا تھا کہ ایک جوان سبز رنگ کے لباس میں نظر پڑا اور میرے پیچھے آ کر دریافت کرنے لگا کہ تم ہم کو پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں تو کہنے لگا کہ تم جانتے ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں فقیر نے کہا نہیں پھر اس نے کہا کہ دربار کی خبر بت دوں فقیر نے کہا بتاؤ بولا اس طرح نہیں بتاؤں گا البتہ اگر تم ہم سے عہد کر دو گے تو اس وقت بتاؤں گا فقیر نے کہا میں عہد کرتا ہوں اس نے کہا اس طرح سے نہیں اگر پختہ عہد کر دو گے تو بتاؤں گا تو فقیر نے پھر کہا کہ عہد حضرت ظہور الحق اس نے یہی کہا کہ نہیں میں نے کہا پھر کس قسم کا عہد کروں اس پر اس نے کہا کہ پہلے

ہم سے اس کا طریقہ معلوم کرو پھر زبان سے کہو فقیر نے کہا کہ تم بتاؤ تو میں سب سے  
 اس نے کہا ہم نے سکھا دیا فقیر نے دریافت کیا کہ تم نے سیرا سکھایا جہڑا بتاؤ  
 شخص نے کہا سیرا بتایا اس کے ظہور سیر کی قسم اس کے بعد و ما دم منتشر الاعضاء  
 روح عیسیٰ و بشہادت ذکر یاد بکلام موسیٰ و بعظمت ظہور نور محمد مصطفیٰ و تقرب  
 ولی اللہ و بحسن ذوالنون مصری و بطاعت جنید بغدادی و بعرفان بایزید بسطا  
 تقرب فرید الدین گنج شکر اچودھنی و بزہد مہدی آخر الزماں و بہ یتیمی سلطان المر  
 سلسلہ دلایت و نبوت تو نے ایک بیان کیا میں نے کہا ہاں میں نے ایک بیان  
 تو اس نے کہا تو نے ایک سمجھا میں نے کہا ایک سمجھا اس نے کہا کہ سب ایک ہی  
 میں نے کہا ہیں تو اس نے کہا وہ سب نسبت ظہور ہے اور یہ سب بطون  
 کے بعد اس نے کہا کہ تم نے اس کا عہد واثق کیا میں نے کہا ہاں عہد واثق کیا تو  
 نے کہا آج تمہاری معراج ہے یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک کہ تم کو سے نہ جا  
 اور معراج نہ کرائیں پھر جب تمہیں ہوش آجائے تب یہ راز عوام و خواص پر ظاہر  
 اور ظہور سر سے پہلے یہ کچھ نہ کہنا کہ ایک آدمی نے ایسا کہا اور چلا گیا اور ہمارا نام بھی  
 کسی پر ظاہر مت کرنا میں یہ سن کر اپنے خلوت خانے میں پہنچا کہ رات کا ایک حصہ  
 گزر گیا تھا وہاں چار یار تھے ہمراہ اور فقیر سے دور تھے میں نے ان میں سے  
 کسی سے کوئی بات نہیں کی اور کچھ بیان نہ کیا ایک گوشہ میں مشغول عبادت فریاضت  
 تھا ایک اور کیفیت رونما ہوئی جس کو نہ خواب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے نہ بیداری  
 سے اسی عالم میں ایک شور برپا ہوا حضرت اہل الصلوٰۃ کی آواز آرہی تھی اس حالت  
 میں فقیر ٹھہر کر دیکھا تو ڈر معلوم ہوا میں نے چاہا کہ سو جاؤں اور کچھ آرام کروں  
 میں اسی خیال میں ہی تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجلس اجاب سے  
 باہر لے آیا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ تمام جمادات و نباتات و حیوانات

انسانی صورت اختیار کر کے کھڑے ہو گئے ہیں سبب میں نے دو قدم رکھا تو ایک صورت نمودار ہوئی شکل انسانی میں اور اس نے عرض کیا کہ میری آرزو یہ ہے کہ آپ کا قدم مبارک میرے سر پر ہوتا کہ شرف حاصل کر سکوں۔ فقیر نے دریافت کیا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں زمین ہوں تو میں نے اس کے سر پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اس کے مرکز کی انتہا تک پہنچ گیا پھر ایک ذہین اور خلیق آدمی نے میرے سامنے آکر مجھے سلام کیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ اپنا قدم مبارک میرے شانے پر رکھنے میں نے اس کی یہ بات نبیوں کی پھر اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں پانی ہوں تو میں نے اپنا قدم زمین سے اٹھا کر پانی کے شانے پر رکھا اور اس کے مرکز کی انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر ایک دوسرا خوش حال و صاحب طبع و ذہین شخص مستعمل و مستعد میرے سامنے آیا اور سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ سرکار میرے شانے پر قدم رکھیں تاکہ مجھے مقبولیت حاصل ہو فقیر نے اس سے کہا کہ تم کو میں با عظمت دیکھ رہا ہوں تمہارے شانے پر کیسے قدم رکھوں تو اس نے کہا کہ بغیر میرے شانے کے راستہ نہ ملے گا کہ ارواح میری منزل ہیں اُس وقت فقیر نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں کرۂ ہوا ہوں تو پھر میں نے اس کے شانے پر قدم رکھا اور اس کی منزل تک پہنچ گیا پھر ایک تیز طبیعت و شوخ و دہشتناک سرخ رنگ والا شخص شمشیر بردار تھا میں بسے ہوئے اور ننگے سر سامنے آیا لیکن اس نے مجھے سلام نہیں کہا اور جیسے ہی آیا سر جھکا کر کہنے لگا کہ میری آنکھ پر قدم کیجئے تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکوں فقیر نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں کرۂ آتش ہوں پھر فقیر نے کہا کہ تو پریشان کیوں ہے اس نے جواب دیا کہ اس پریشانی کی یہ وجہ ہے کہ جس روز سے ابلیس ناری مردود ہوا ہے میرے دل کو سکون نہیں ہے کیونکہ اُس کا ظہور مجھ سے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی

زد میں آنے سے مجھ پر بھی عتاب نہ ہو لیکن حق تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے قدم شریفین کی برکت سے عتاب سے بچ جاؤں گا۔ فقیر نے کھڑے ہو کر حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور خبر ملی اور کہا کہ تو پر وہ دار جلال عظمت ہے خبر سلامتی تیرے لیے نہیں ہے۔ سر نیچا کر کہے میں نے اس شخص کی آنکھ پر پاؤں رکھ دیا۔ جب دہاں سے نکلا تو فلک قر کے نیچے پہنچ گیا تو ایک بزرگوار اہل عظمت و مشائخ صفت نے میرے سامنے آکر سلام کیا میں نے ان کے سلام کا جواب دیا جب ان سے نزدیک ہوا تو انہوں نے مصافحہ کیا اور کہا کہ تمہارے خلوت خانہ میں چند بار میں گیا لیکن تم سے مجھے گفتگو کا موقع نہ ملا فقیر نے ان کے مصاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہیں مصاحب نے کہا یہ خواجہ خضر ہیں یہ آواز انہوں نے بھی سُن لی اور فرمایا کہ دریا نے گنگا کے کنارے جناب کے خلوت خانے میں آپ سے ملا تھا لیکن مجھے اپنے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اب ہم دونوں آسمان کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ آسمان دو ٹکڑے ہو گیا اور تمام کواکب مشعلیں بن گئے اس راستہ سے ہم اندر آئے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام ادیبان کے ساتھ ان کے سردار کی حیثیت سے نظر آئے انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سے ملنے کے منظر تھے تم خوب آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے بھی حاضر تھے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی کام سے اہل جاہ بزرگوں کے گھر جاتا ہے ان کی مسرت و شادمانی کا بیان تحریر میں لانا ممکن نہیں اور جو دیکھا گیا اس پر عقل حیران ہے حضرت خضر علیہ السلام اور تمام ارواح ادیبان و ملائکہ کھڑے ہو گئے اور حضرات امیرین فقیر کے ہمراہ ہو گئے اور آسمان دوم پر پہنچے تو یہ آسمان بھی شق ہو گیا اور ہر ستارہ مشعل ہو گیا ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو تمام ارواح



اولیاد جن کہ ان کا مسکن یہی ہے ہمارے استقبال کے لیے آئیں پس وہ سب  
 ادھر متوجہ ہو گئیں اور اس آسمان کے تمام فرشتے بھی حاضر ہو گئے اور انہوں نے  
 ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے عزت الاعظم چند ہزار سال پہلے اللہ کے  
 عطا کردہ علم سے ہمیں معلوم تھا کہ تم کو اس راہ سے گزارا جائے گا اس لیے ہم قدم  
 بوسی کے منتظر تھے یہ کہہ کر وہ سب کھڑے ہو گئے اور ہم وہاں سے روانہ ہو کر فلک  
 سوم یعنی تیسرے آسمان کے نزدیک پہنچے۔ وہاں یہ فریاد سننے میں آئی کہ اس فقیر  
 کے طفیل ہم کو نجات مل جائے۔ فقیر نے خوف زدہ ہو کر مصاحبوں سے دریافت  
 کیا کہ یہ فریاد ہی کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ہاروت و ماروت ہیں پھر فقیر نے  
 ان سے دریافت کیا کہ ان کی رہائی کی کوئی سورت ممکن ہے انہوں نے کہا نہیں۔  
 تم یہاں سے جلد روانہ ہو جاؤ کہ حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے  
 منتظر ہیں تو دل میں یہ خیال ہوا کہ جب کسی کی مشکل آسان نہ ہو تو یہاں آنے سے کیا  
 فائدہ آواز آئی کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں تم جو چاہتے ہو وہ بیان کرو  
 فقیر نے عرض کیا کہ اے حضرت للہ نزال تجھ پر اس کا جواب خوب روشن ہے تو حکم  
 ہوا کہ اب ان کو مزید کنویں میں نہ ٹکایا جائے اور ان پر سے عذاب موقوف  
 کر دیا جائے قیامت تک کے لیے اور قیامت کے دن یہ دونوں حضرت امام حسین  
 رضی اللہ عنہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور وہ یزید کو امام عالی مقام کے قدموں  
 میں ڈال اس کے تصور کی معافی چاہیں گے لیکن اس کی معافی نہ ہوگی۔ میں اب  
 اس مقام سے بھی گذر گیا اور چوتھے آسمان کے قریب جا پہنچا تو وہ بھی دو ٹکڑے  
 ہو گیا اور گواکب ہلال کی مانند ہو گئے۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو بجز چند کے  
 تمام ارح انبیاء استقبال کے لیے آئیں اور انہوں نے مصافحہ کیا نیز اطہار مسرت  
 کیا وہاں کے فرشتوں نے بھی نہایت خوشی و شادمانی کے ساتھ تحسین و آفرین کہی

اور کہا کہ اکثر ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ یارب ان کا اس راہ سے کب گذر ہوگا جس روز کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس روز اتنے اولیاء کی ارواح برابر موجود تھیں مجملہ ان کے ایک تم ہو لیکن اس حالت میں صرف روح تھی اور اس حال میں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے یہ تفریح و سیر ہی کچھ اور ہے یہ کہہ کر وہ سب کھڑے ہو گئے فقیر حضرتین کے ساتھ دباں سے نکلا اور ہم پانچویں آسمان پر پہنچ گئے دباں میں نے ایک صورت و معنی والی دیکھی تو میں حیرت میں پڑ گیا اور بہت خوش ہوا اور دونوں درجے برابر پائے۔ معراجوں سے جس کی دریافت کیا کہ برائے انہوں نے کہا کہ بہشت و دوزخ کے معنی یہاں مہیا ہیں قیامت کے دن سرور و انبساط ہوگا پھر میں نے پوچھا کہ کیا اب بھی بعض لوگوں کو بہشت میں دیکھا جاسکتا ہے اور یہ کیا بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے کیا یہ حقیقت آج ظاہر ہو جائے گی اور یہاں سے لے کر بندہ جنتی کی قبر تک جنت کی کوئی کھڑکی کھول دیتے ہیں کیا ظاہری اشارہ اسی طرف ہے جب ہم یہاں پہنچے یعنی پانچویں آسمان پر تو یہ بھی دو ٹوک سے ہو گیا اور کو اکب مشعل بن کر روشنی دینے لگے میں پانچویں آسمان کے اندر آیا تو بہت جانور دیکھنے میں آئے جو بچہ خوبصورت اور خوش الحان تھے وہ سب فقیر کے ہاتھ پاؤں سے لپٹ گئے اور باتیں کرنے لگے فقیر نے ان سے کہا کہ اس میں کیا راز ہے کہ تم صورت میں جانور ہو اور باتیں انسانوں کی طرح کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ارواح ہیں اور ہم نے اپنے علم سے تنزل کر کے یہ صورت حیوانی پائی ہے۔ جو جسم کے ساتھ منسوب ہوتا ہے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے اور تمام ارواح کی خواہش تھی اور انہیں تعب بھی تھا کہ روح جسم کیسے ہوتی ہے اور انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ حضرت شیخ محمد غوث اس راستہ سے گزریں گے تو تم بھی انہیں دیکھو گے۔ اب ہم

آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت حق سے ہمیں امید ہے کہ اس جسم کے ساتھ ہم زیارت سے مشرف ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ وہ ارواح اولیاء جو منسوب جسد نہیں ہیں کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں ہیں کہ جہاں کسی فرشتہ اور روح کا کوئی دخل نہیں ہے فقیر کو یہ آرزو ہوئی کہ وہاں کی سیر کرے اور مصاحب سے کہا کہ تو وہ مقام دکھا سکتا ہے اُس نے کہا کہ نہیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ قدرت مردان خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں چھوڑتی اور وہ قدم بر قدم چلتے ہیں وہاں کی سیر سے کیا فائدہ پروردگار غیب لاریب سے ندا آئی کہ بے جاؤ اور دکھاؤ تو وہ لے گئے چند لاکھ اولیاء جو جسم سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سات ولی ایسے ہیں کہ ان کے معاملات میں کسی ولی کا کوئی دخل نہیں ہے اور ان میں سے دو ولی فقیر کے فیض سے ایسے اور بن جائیں گے کہ تمام عالم کا کاروبار سنبھال لیں گے یہ بات معلوم ہونے کے بعد میں یہاں سے گذرنا ہوا چھٹے آسمان پہ پہنچا وہ بھی شوق ہو گیا اور کو اکب مشعلیں بن گئے میں چھٹے آسمان کے اندر داخل ہوا تو عجیب و غریب باتیں دیکھنے میں آئیں اور اس آسمان کے بھی تمام فرشتے سامنے آئے اور سب نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں فقیر نے ان سے معلوم کیا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں انہوں نے کہا و نستر جلال اہل نار ابھی اس کو بیان نہیں کیا جائے گا البتہ ان میں سے بعض کو بیان کیا جاتا ہے فقیر نے پوچھا وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ قدم اٹھاؤ آپ کی نظر مبارک میں آجائیں گے۔ میں جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جلال و عظمت کا ایک مکان ہے یہاں عورتیں بیٹھی ہیں اور ان میں سے ایک عورت توجید صرف کو بیان کر رہی ہے فقیر نے پوچھا یہ کون ہیں مصاحبوں نے بتایا مادر خوار فقیر نے دوڑ کر زمین کو ہر ما اور حضرت مانی خوار صاحبہ اور ان سب سے فقیر نے یہ دریافت

کیا کہ آپ سب مسلمان ہوتے ہوئے جلائیوں کی جماعت میں کیوں ہوا انہوں نے فرمایا کہ انم واکمل و احسن تجلی میں ہوں اہل جلال ہم ہی سب ہیں کہ صفت واحد کے ساتھ موصوف ہیں۔ فقیر نے ما در حواسے عرض کیا کہ آپ ہمیں پہلے ہی ان کے گزرنے کی خبر دے دیں انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ولایت جمال تیار کے ساتھ منسوب تھی وہ ختم ہو گئی اب اولیاء کے حصے ہیں آگئی اولیاء کو دونوں کے حصے ملے ہیں اور یہ خطہ ولایت محض کا ہے۔ اب ایک اور راز کی بات سنئیے آپ کو یہ عورتیں جو نظر آ رہی ہیں مخبر اہل جلال ہیں اور اہل نار کو چاہتی ہیں اسی لیے رسول علیہ السلام نے فرمایا النساء جبال الشیطان یہ عالم باطن کی خبر دیتی ہیں اور تمام مخلوق ان کو صاحب کشف و کرامات سمجھتی ہے یہ پہلے آدمی کو جذبہ جلال میں لاتی ہیں اور آخر کار کفر کی راہ پر چلاتی ہیں تو فقیر نے پوچھا پیغمبروں کے پاس پیغام لانے کے لیے جبرئیل علیہ السلام اور اس جماعت کے لیے کون سا فرشتہ مقرر ہے انہوں نے کہا کلکائیل جو جلال عظمت سے ظاہر ہوا ہے اور عورت مذکورہ دیکھتے ہی اس کی گردیدہ ہو گئی ہیں۔ چند لاکھ مردان اہل جلال اپنی صورت جلال میں ظاہر ہوں گے اور وہ ان عورتوں سے فیض حاصل کریں گے لیکن یہ عورتیں باطنی طور سے کلکائیل سے فیض پائیں گے اور مرد ظاہری اعتبار سے اپنی قوم کو اپنے افعال سے مسخر و مطیع بنائیں گے اور معبود مطلق کی پرستش کریں گے۔ ان کی نگاہ میں خیر و شر کا فرق نمایاں ہو جائے گا۔ چند افراد کلکائیل کے واسطہ کے بغیر ہی فیض پائیں گے منجملہ عورتوں اور مردوں کے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے اور واسطہ درمیان میں نہ رکھیں گے اس لیے کہ ان کو دیدار حق بے پردہ ہوا ہے۔ اور فقیر کو اس دوران عجب طرح کی حیرت ہوئی کہ اسے رب کسی نے کبھی اس بات کو نہ سنا ہو گا دیکھنا تو کہاں ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہاں سے نکلے اور حضرت توحا

جی ساتھ چلیں یہاں تک کہ ہم ساتویں آسمان کے قریب پہنچ گئے۔ ایک مرد آتشی سامنے آیا فقیر نے پوچھا تو ماور خوا نے فرمایا کہ اسی مقصد سے ہم اپنی جگہ سے یہاں تک آئے کہ خاتم جلالی کو دیکھ کر تمہیں نون معلوم نہ ہو تو فقیر نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے آپ نے نام تو بتا دیا لیکن دوسروں کو بتانے سے منع فرما دیا اور تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ جلال عظمت کا دیدار ہو جائے اور ماور خوا بھی مساجدوں سمیت میرے ساتھ چل پڑیں یہاں تک کہ ہم ساتویں آسمان کے قریب پہنچ گئے یہ آسمان بھی دو کھڑے ہو گیا اور ہم اس کے اندر داخل ہو گئے تو یہاں ماہیات علوی و سفلی نظر آئیں ہم نے یہاں کچھ توقف کیا تاکہ یہ ماہتیں حل ہو جائیں اس سے پہلے یہاں سے آگے جانا مناسب نہیں اور میں نے جب بائیں طرف نظر ڈالی تو دین و دنیا کو دیکھ لیا کہ وہ ایک ہی رنگ میں کھڑے ہیں مزین و مجلی۔ ایک امر و نہر جو ان خوش فہم جو دین کامل رکھتا تھا۔ اور یہ دین ہی یہاں کی خاص ہستی ہے اور دوسری دنیا تھی جو نہایت آراستہ و سرفراز عالی شان عمل جو نزاکت و کمال میں بے مثال تھا یہ دنیا اپنی حقیقت سے غافل ہو کر اور انجام کی بہتری کے بغیر حاصل کئے قعر مذلت و پستی ہے پھر حکم ہوا کہ جو اس میں آنا چاہے وہ آجائے میں نے جواب میں کہا کہ نہ میں خود اندر آؤں اور نہ آپ بھلے اندر لے جائیں مجھے تو صرف آپ سے کام ہے۔ مساجدوں نے سُن کر نماز شکرانہ ادا کی کیونکہ یہ لغزش کا مقام تھا۔ یہاں بہت لوگ پھسل چکے ہیں اور تحت اشرامی میں گر چکے ہیں۔ جب پر دوں پر نظر ڈالی تو میں نے علم کسی و علم لدنی کو دیکھا بس دل تحصیل علم ظاہری کی طرف مائل ہوا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا فتنہ فرمایا کہ تم نے چار اماموں کو دیکھا میں نے کہا نہیں البتہ کردہ مانی میں کھڑے ہوئے نظر آئے تھے اور یہ یقین ہے کہ ان میں اختلافات تھے پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ علم لدنی کیا ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں یہ بات دل میں تو ضرور آئی لیکن زبان

سے نہیں نکلی کہ تمام اسمائے الہی اپنی صورتِ علمبر کے ساتھ تہہ اعیان میں ثابت اور مشکل ہو کر ظاہر ہوئے۔ جن میں سے بعض ظاہر تھے اور بعض نہیں تھے وہ سب ہی ظاہر ہو گئے اور سب نے صورت کو فی اختیار کر لی۔ پھر اسمائے کوئی و اسمائے الہی دونوں اس جگہ میں سما گئے۔ پھر میں نے یہاں سے قدم اٹھایا تمام کو اکبہ افلاک مشعلوں کی صورت میں روشن تھے وہ بھی صورت انسانی میں تبدیل ہو گئے اور تمام اہل افلاک نے ان سے نور حاصل کیا کہ کرہ خاک سے کرسی تک ہر ایک اپنی جگہ کھڑا ہے اور ہر ایک صورت انسانی ہیں نظر آ رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے اور کرسی سے کرہ خاک تک ہر ایک بے پردہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ بعض انبیاء و اولیاء جو ہم صحبت تھے وہ کرسی میں کھڑے ہیں مگر آدم صلی اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و صدیق اکبر و حضرت علی مصاحب قدیم میرے ساتھ ہیں جب ہم فلکِ اطلس پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام و حضرت موسیٰ و ابوبکر صدیق کھڑے ہیں اور حضرت علی اسد اللہ مصاحب قدیم کے ساتھ ہم عرش پر پہنچے وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں جب آپ نے فقیر کو دیکھا تو شکرانہ حضرت صمدیت ادا کیا اور فرمایا کہ میری امت میں صرف سات افراد یہاں پہنچے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ بتا دیا جب پانچ تن ایک جگہ ہوئے تو حضرت رسالتاب نے پانچ شرارے دکھائے جو دیکھتے ہی نیست و نابود ہو گئے اور یہ فرمایا کہ ایک شرارہ سے دوسرے شرارہ کے درمیان فاصلہ نینانوے ہزار سال راہ دنیا کا ہے۔ جو یہاں کی سیر کرے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا یا نہیں اس میں احتمال ہے پس فقیر کو فکرو ہوئی کہ یہاں پہنچنا کس طرح ممکن ہے ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ اس ذات بے ہمتا دے مثال نے حوصلہ بلند کیا اور ایک ہی پرواز میں فقیر وہاں

پہنچ گیا اور میرے علاوہ چار تین اور بھی دہاں آ موجود ہوئے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو صورت عزرائیل میں جلال عظمت نے اپنی طلعت سے مجھے بیخود کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا۔ بعض وہاں اور یہاں تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جلال عظمت عزرائیل کو دیکھا تھا وہ دیکھتے ہی بارگاہ حق تعالیٰ میں سر بسجود ہو گئے اور وہیں رہ گئے پھر واپس گئے۔ قدرت نے فقیر کی نظروں سے پر دے اٹھا دیئے اور چکا چونڈ تک نہ ہوئی کیا دیکھتا ہے کہ جلال عظمت کی تہ میں اس کی طلعت اور بالائے جمال اس کی کبیرائی جو عظمت عظیم کے مالک کی حیثیت سے عیاں ہے اور رب العالمین کے دونوں تختوں سے مہیا و موجود ہے شرارہ اسمائے افعال ملک سے اور اسمائے کونی سے مجتلی ہو کر صفات ذاتی کی زینت سے مزین اور لاحت اسمائے تقدیس سے مقدس ہے اور بے نشان سے نشان میں ظاہر ہوئی اور اعلیٰ سے اسفل کی طرف آراستہ و پیراستہ اور اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود۔ اس نے کسی کو بغیر صلاحیت کے کسی رہبر پر فائز نہیں کیا اور ہر ایک کو اپنی حسب حیثیت معرفت عطا کی اور جو ایک کا حال دوسرے سے پوشیدہ تھا اسے ظاہر کر دیا اور ایک کو دوسرے کا ناظر اور اس کو منظور اسی نے بنایا اور ہر ایک میں اسی کا نور ہویدا ہوا۔ حضور بنور متجلی ایک تجلی دوسرا مشاہدہ نور اعلیٰ سے اذنی تک کی نظروں میں بے پردہ ہونا اسے منظور نہ تھا۔ جب تمام انجمن کو اس نے منظم کیا تو بے پردہ ندائے حق خوش صدا آئی کہ جو احمد بلا مسم ہے دبر سر تخت جلوہ گہ ہے۔ اس کلام ارادت آرا کے سنتے ہی اس فقیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھا جو بالکل قریب موجود تھے کہ معراج تو مجھے ہو رہی ہے اور تخت پر حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو دلی بس نبی کی امت میں ہوتا ہے تو پہلے اس کے نبی کو معراج ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بھائی

اس کے دلی کو ہوتی تاکہ ولایت و نبوت کا گھر آباد ہے جب مسیح علیہ السلام نے یہ توجیہ کی تو میرا دل خوش ہو گیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر جلوہ افروز ہو گئے سب آپ کی تنظیم بجالائے اور حضرت حق نے بِمَنْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سب کو اپنی ایک تجلی دکھائی مجھے کچھ معلوم نہیں کہ پھر کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا جب اس کے فیض نے وجود ہستی میں ایک غوطہ لگایا تو سب پر عیاں ہو گیا الان کما کان یعنی وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت سے نیچے اترے اور فقیر کی طرف اشارہ فرمایا تو فقیر نے بیڑھی پر قدم رکھا تو تمام وجود ہستی وجود نور ہو گیا اور فرشتوں نے بند آواز سے کہا کہ تمام کے لاتعداد گناہ معاف ہو گئے اور يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ میں شغول ہو گئے۔ بشریت کا ایک ذرہ باقی نہ رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا خود کو میں نے مصداق پایا اور جب تخت پر پہنچا اور بیٹھ گیا۔ قدرت ذات بچوں نے ایسا مرتبہ رفیع بنھا کہ اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں اور تمام انبیاء و اولیاء و ملائکہ و موجودات نے اس معبود حقیقی کو سجدہ کیا اور مقام فنا پایا اب ساجد کیفیت مسجود باقی نہ رہی وَيَسْطَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نے تجلی فرمائی اور کلام لفظی کا سلسلہ شروع ہوا سوال و جواب کی اس سے ابتدا اور اسی پر انتہا ہونی تمام موجودات کی ماہیت اس میں موجود اور حرکت وجود کو ایک قبیلہ بنا کر سب کو اپنی طلعت حسن کے لباس سے سر بند کیا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا کبھی باہم اور کبھی بے ہمہ ذات ازلی نے سطح ابدالاباد میں متجلی ہو کر خود کو عیاں کر دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو قربی اعظم من قرب کل اشیا کی مجھے خبر ملی۔ ابتدا و انتہا کی ایک ہی صورت نظر آئی تو میں تخت سے نیچے اُترا اور تعین اول میں پہنچا اور روح القدس سے واقف ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم



کی صورت دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا قدم نبی آخری قدم دلی ہے۔ میں اپنے متعلق اس بات کو سمجھ کر تہہ ثانی میں پہنچا اور اسم سے جسم ہو کہ سطح عرش پر پہنچا تو مست و بے خود ہو گیا حضرت رسالتاب نے اپنے یار غار حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو ان کی جگہ پہنچا دو آپ نے میرے دونوں بازو پکڑے جب میری آنکھ کھلی گئی تو میں نے اپنے مصاحب قدیم کو سامنے موجود دیکھا اور پہاڑ پر چلا گیا۔ وہاں آنے والے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے خود کو وہاں تنہا پایا۔ جب بستر پر آیا تو میں نے شیخ جلال احمد غازی میناری کو اس پر کر وٹیں لیتے ہوئے بحالت بیداری دیکھا پھر شیخ احمد غازی اٹھ کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کر مراقبہ میں گئے تو ان کو میرے حالات کی خبر مل گئی اور بیٹھتے ہی شیخ جلال نے مجھ سے دریافت کیا کہ جناب آپ کہاں گئے تھے شیخ احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت اور درویشوں سے ہم کلام تھے پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم تو سو رہے تھے اور تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت یہاں موجود تھے۔ صرف اتنا ہوا کہ حضرت دھوکے سے اٹھے تھے۔ جب فقیر نے دیکھا کہ یہ بہت بحث کر رہے ہیں تو کہا جناب اپنے خیال میں مست ہیں اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں اس پر وہ خاموش ہو گئے اور فقیر نے بھی سوچا کہ یارب یہ کیا معاملہ ہے مجھے تو ساہا سال ہو گئے اسی حالت میں اور یہ قومہ و جلسہ میں مصروف بحث نظر آتے ہیں۔ میں اسی خیال میں محو تھا کہ حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ یاد آیا تو دل میں جو خطرہ تھا وہ دور ہو گیا اور اب جو حال تھا اس کا حال حال میں نہیں آسکتا سوائے خداوند تعالیٰ کے اُسے کوئی اور نہیں جانتا۔ فقیر سے جتنا ممکن ہو سکا قلم سے اتنا ہی لکھا گیا۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو خوش نصیب ہو گا اس سے واقف ہو گا۔ اگرچہ از روئے سلوک اول قدم نبی آخر قدم دلی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کافی غور و

نوض کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ولی خواہ کتنی روحانی سیر کرے لیکن  
رتبہ معنی سے متجاوز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ولایت نبی کی تابع ہے خداوند تعالیٰ  
خلل و ذلل سے ہم سب کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین

## ممت بالخیبر

اراقم: محمد نعیم الحق صدیقی خانیوال

# شہادہ محمد غوث گوالیاری کی دوسری تصانیف

جواہر خمسہ

★

معدراج نامہ

★

بکرا الحیات

★

ضمائر و بصائر

★

کلید مخزن

★

کنز الوجد

★

